مفتاح القواعد

MIFTAH-UL-QAV

BY

The Late M. M. MOHI-UD-DIN JAFRI

Late Assistant Professor, Muir Central College, Allahabad

Price Annas Six.

۱۰

Scanned by CamScanner

مصباحی لائبریری

Team of Misbahi Library

Md Khubaib Raza Misbahi
Md Asjad Raza Misbahi
Md Abdur Rahman Misbahi
Md Ahmad Ali Misbahi

Creator

Md Saif Khan Misbahi
Misbahilibrary@gmail.com

Scanned by CamScanner

786

Team of Misbahi Library

Names	Contact N
Md Khubaib Raza Misbahi	9984903158
Md Asjad Raza Misbahi	8948518993
Md Ahmad Ali Misbahi	9920278913
Md Abdur Rahman Misbahi	8009186120

Creator :

Md Saif Khan Misbahi
8081414883

Date

Scanned by CamScanner

بعونہ تعالےٰ

رسالۂ پُر فوائد موسوم بہ

مفتاح القواعد

در بیان صرف و نحو زبان فارسی

کہ جناب مولوی محمّد محی الدّین مرحوم سابق اسسٹنٹ پروفیسر
میور سنٹرل کالج الہ آباد تالیف فرمودہ اند

باہتمام عبد الواسع جعفری

در مطبع انوار احمدی واقع الہ آباد طبع شد

۱۹۲۸ء

قیمت فی جلد ۶ر

محصول ذمہ خریدار

Scanned by CamScanner

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

سپاس بیقیاس حضرتِ خالقِ دو جہان کو لائق ہے جس نے دو حرف کاف و نون سے جملہ کائنات کو مرتب فرمایا۔ ایک اشارے مین دو جہان کو عدم سے وجود مین لایا۔ شاہدِ سخن کو وہ حُسنِ دلفریب عنایت کیا جس کے جاں فزا کرشموں نے ایک عالم کو دیوانہ بنا دیا۔ ایسے خالقِ مطلق کی حمد ثنا کس طرح بیان ہو۔ قلم شکستہ رقم ایسے مقام میں کیونکر نہ سرگرداں ہو۔

شعر

زبانِ قلم میں یہ قدرت کہاں   جو ہو حمد خالق میں گوہر فشاں

درود نامحدود و ثنا رحبیب خالق ودود ہو جس نے ایک عالم کو تیہ ضلالت سے راہِ ہدایت پر لگایا۔ لب تشنگانِ ناکامی کو سرچشمۂ کامیابی تک پہونچایا۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم۔ بعد اس کے پوشیدہ نہ رہے کہ ہر زبان میں مہارت کا بہم پہونچنا بدون دریافت اُن قواعد کے جو خاص اہلِ زبان کے موافق ہوں ممکن نہیں اس لئے اُن حضرات نے جن کو زبان

سے مذاق تھا۔ قواعد کی تحقیق میں کیا کیا کوششیں کیں کیسی کیسی تالیفیں فرمائیں۔ لیکن آج کل جو کتابیں قواعد کی مروج ہیں اُن میں بعضی تو غیر ضروری چیزوں پر مشتمل ہیں اور بعضی ضروری چیزوں سے خالی۔ لہذا کمترین محمد محی الدین جعفری زینبی نے رسالہ موسوم بہ مفتاح القواعد محض بہ لحاظ نفع خاص و عام تالیف کیا۔ ناظرین اگر بہ نظر انصاف ملاحظہ فرمائیں گے تو بیشتر ضروری قاعدوں پر مشتمل اور غیر ضروری سے خالی پائیں گے۔ اُمید کہ اگر پسند آوے مؤلف کو دعاے خیر سے یاد فرمائیں۔ اور اگر کہیں سہو و خطا پائیں عفو فرماویں ہدفِ ملامت نہ بناویں کہ انسان کو سہو و خطا سے چارہ نہیں واللہ المعین علیٰ ما نستعین

باب اوّل در علم صرف

صرف وہ علم ہے جس سے بنانا ایک کلمہ کا دوسرے سے اور گردان اور تبدیل و تعلیل اُس کی معلوم ہو **موضوع**[۱] اُس کا کلمہ ہے۔ **غرض** اُس سے یہ ہے کہ متکلم لفظ صحیح بولے۔

جاننا چاہیئے کہ جو بولی آدمی کے مُنھ سے نکلتی ہے اُس کو **لفظ** کہتے ہیں۔ اگر وہ بامعنی ہو تو موضوع ہے ورنہ مہمل۔ پس **کلمہ** وہ لفظ موضوع ہے کہ جس کے معنی مفرد ہوں یعنی اُس کے ٹکڑے کرنے سے وہ معنی سمجھ مین نہ آویں جو پہلے سمجھے جاتے تھے اُس کی تین قسمیں ہیں۔ **اسم۔ فعل۔ حرف۔**

فصل اوّل در بیان اسم

اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں یعنی بدون ملائے اور کلمہ کے اُس کے معنی سمجھے جاویں اور اس میں زمانہ نہ پایا جاوے جیسے گُل گفتن۔ اُس کی دو قسمیں ہیں۔ **اسم**[۲] **ذات۔ اسم صفت۔** اسم ذات وہ اسم ہے کہ جس سے صرف ذات کسی شئے کی سمجھی جاوے اور کوئی وصف اُس سے نہ سمجھا جائے مثلاً درخت شیراز۔ نیکی۔ بدی۔ اسم صفت وہ اسم ہے جس سے علاوہ ذات کے کوئی معنی وصفی بھی سمجھے جاویں۔ مثلاً نیک و بد۔ نویسندہ۔ نوشتہ۔ نویسان۔ اندوہگیں۔ غمناک۔ ستمگار۔ دلدار۔ باغبان۔ سخنور۔ نام آور۔ ثنا ہوار۔ سردار۔

---

[۱] موضوع علم اُس چیز کو کہتے ہیں جس کے حالات ذاتی اس علم میں بیان کیے جاویں جیسے علم طب کا موضوع بدن انسان ہے اور علم حساب کا موضوع عدد ہے۔ [۲] تقسیم اسم باعتبار معنی۔

ہمرکاب۔ ناسپاس۔ پُرمغز۔ بیکس۔ باحیا۔ وغیرہ۔ اسم کی تین قسمیں ہیں جامد[۱]۔ مصدر۔ مشتق۔ جامد وہ اسم ہے کہ نہ اُس سے کوئی کلمہ نکلا ہو۔ اور نہ وہ کسی سے نکلا ہو۔ جیسے درخت۔ گُل۔ اُس کی دو قسمیں ہیں۔ نکرہ۔ معرفہ۔ نکرہ وہ اسم ہے کہ ایک چیز غیر معیّن پر دلالت کرے۔ جیسے مرد و زن۔ معرفہ وہ اسم ہے جو شئے معیّن پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً زید اُس کی سات قسمیں ہیں۔ علم[۱]۔ ضمیر[۲]۔ اسم[۳] اشارہ۔ اسم[۴] موصول۔ معہود[۵]۔ مضاف[۶]۔ پانچوں قسموں مذکورہ کی طرف[۷] منادیٰ۔

۱۔ **فائدہ**۔ اسم صفت کی ایک قسم اسم تفضیل ہے۔ جو اپنے موصوف کی زیادتی وصف ظاہر کرے اُس کا عام قاعدہ یہ ہے کہ اسم کے آخر لفظ تر و ترین لگانے سے یہ معنی حاصل ہوتے ہیں اس کا استعمال تین طور پر ہے۔ اوّل وہ کہ اس میں مفضل علیہ مذکور ہو جیسے این اسپ چابک تر است۔ اس کو تفضیل نفسی کہتے ہیں۔ دوّم وہ کہ اس میں مفضل علیہ از کے ذریعے سے مذکور ہو مثلاً احمد از محمود دانا تر است۔ اس کو تفضیل جزئی کہتے ہیں۔ سوّم وہ کہ جس میں کُل پر زیادتی منظور ہو اور اس میں مفضل علیہ مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو تفضیل کلی کہتے ہیں۔ جیسے رستم دلاور ترین ایرانیاں بود۔

۲۔ **فائدہ**۔ اسم ذات کو باضافہ حروف اتصاف و خداوندی و محافظت و فاعلیت و شرکت و لیاقت و دیگر انواع مختلفہ و اقسام گوناگوں سے اسم صفت کر سکتے ہیں جیسا کہ مثالوں سے ظاہر ہے اور اسم صفت کو باضافہ یائے نسبت یا یائے مصدری اسم ذات کر لیتے ہیں۔ مثلاً نیکی۔ پرستندگی۔ آزردگی۔ نمکناکی۔ دلداری۔ باغبانی۔ سخنوری۔ سرداری۔ ناسپاسی۔ بیکسی وغیرہ۔

۳۔ **فائدہ**۔ فارسی کے ہزاروں لفظ ہیں۔ کہ بظاہر مفرد در اصل مُرکّب ہیں جیسے شمشیر۔ زمین۔ وغیرہ۔ مگر یہ سب جامد ہی گنے جاتے ہیں۔

۴۔ **فائدہ**۔ اسم جامد اسم ذات و اسم صفت دونوں ہوتا ہے اور مصدر صرف اسم ذات ہوتا ہے نہ اسم صفت اور مشتق اسم صفت ہوتا نہ اسم ذات۔ ۔[۱] تقسیم اسم باعتبار اشتقاق۔

۱ **علمؔ**۔ وہ ہے جو نام ہو کسی چیز معیّن کا جیسے زید۔ علم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ **کنیتؔ** جس میں لفظ اَب۔ اِبن۔ اُم کا پایا جاوے۔ جیسے ابوالقاسم۔ ابنِ عباسؓ۔ اُمِّ سلمہؓ **خطابؔ**۔ جو بڑوں کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ جیسے شجاع الدولہ۔ **عرفؔ**۔ نام مشہور کو کہتے ہیں۔ **تخلّصؔ**۔ جو شاعر اپنے شعروں میں مقرر کرتے ہیں۔ مثلاً سعدیؔ۔

لقبؔ۔ جس میں کسی طور کی تعظیم و صفت نکلتی ہے۔ مثلاً تاج الشریعہ۔

ضمیر وہ اسم ہے کہ موضوع ہو واسطے متکلم یا مخاطب یا غائب مذکور شدہ کے کہ اس کو **مرجع** کہتے ہیں۔ ضمیر کی دو قسمیں ہیں۔ متّصل منفصل۔ **متّصل** وہ ہے جو کلمہ سے ملی ہوئی آئے۔ **منفصل** وہ ہے جو کلمہ سے علیحدہ ہو۔

ہر ایک متّصل و منفصل کی تین قسمیں ہیں۔ اوّل **مرفوع** (جس کو فاعلی بھی کہتے ہیں) وہ ہے جو فاعل یا مبتدا ہو۔ جیسے گفتم۔ او موجود است۔ دوم **منصوب** (جس کو مفعولی بھی کہتے ہیں) وہ ہے جو فعل کا مفعول ہو۔ مثلاً زدندش۔ او را داد۔ سوم **مجرور**۔ (جس کو اضافی بھی کہتے ہیں) جو مضاف یا حرفِ جر کے بعد واقع ہو۔ مثلاً غلامم۔ بتو۔ ضمیر **مرفوع متصل** کی دو قسمیں ہیں۔ مستتر۔ بارز۔ **مستتر** وہ ہے کہ جس کے لئے کوئی لفظ فعل میں نہ ہو۔ جیسے گفت میں۔ **بارز** وہ ہے جس کے لئے کوئی لفظ فعل میں لگایا جاوے۔ جیسے گفتم کی میم۔

فائدہ ضمیر مرفوع متصل ہر فعل کے صیغہ واحد غائب میں۔ اور فعل امر و نہی کے صیغۂ واحد حاضر میں مستتر (پوشیدہ) ہوتی ہے اور باقی صیغوں میں بارز۔

۱۔ فائدہ۔ مرجع ضمیر سے مقدم ہوتا ہے اور کبھی فارسی میں مؤخر بھی ہوتا ہے اس کو اضمار قبل الذکر کہتے ہیں جیسے ؎ گویمد ذکر خیرش در خیل عشقبازاں ٭ ہر جا کہ نام حافظ در انجمن برآید۔

ضمائر متصل کے لئے دس لفظیں ہیں

	واحد	جمع	
متکلم	م	یم	یہ پانچ متصل فاعلی ہیں۔ مثلاً، گفتم۔ گفتیم۔ گفتی۔ گفتید۔ گفتند۔
مخاطب	ی	ید	
غائب		ند	
متکلم	م	ماں	
مخاطب	ت	تاں	
غائب	ش	شاں	یہ پانچ مع میم کے متصل مفعولی ہیں۔

جب فعل متعدی کے بعد آویں مثلاً دشنامم داد۔ داد ماں۔ دادت۔ دادتاں۔ دادش۔ دادشاں۔ اور متصل اضافی ہیں جب اسم یا حرف جر کے بعد آویں۔ مثلاً دلم۔ دل ماں۔ دلت۔ دل تاں۔ دلش۔ دل شاں۔

ضمائر منفصل چھ ہیں

	واحد	جمع	
متکلم	من	ماں	
مخاطب	تو	شما	
غائب	او یا وے	اوشاں یا ایشاں	یہ ضمیریں جب فعل کے پہلے آتی ہیں

۱۔ **فائدہ**۔ میم ضمیر متصل فاعلی بھی ہوتی ہے اور مفعولی اور اضافی بھی۔

۲۔ **فائدہ**۔ حروف جر کے بعد کوئی ضمیر متصل نہیں آتی۔

۳۔ **فائدہ**۔ او اور وے واحد غائب کے ذوی العقول کے لئے آتے ہیں۔ مگر جب در یا از یا بر وغیرہ کوئی حرف اس پر آجائے تو غیر انسان کے لئے بھی جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

یا مبتدا ہوتی ہیں تو منفصل فاعلی ہیں جیسے من می گویم۔ ما می گوئیم۔ تو کردی شما کردید۔ او یا وے کرد۔ اوشاں یا ایشاں کردند۔ اور جب رَا ان کے آگے آتا ہے تو منفصل مفعولی ہیں۔ جیسے مرا داد۔ ما را داد۔ ترا داد۔ شما را داد۔ او را داد۔ ایشاں را داد۔ اور جب کوئی حرف جر یا اسم اس کے پہلے آتا ہے تو منفصل اضافی ہوتی ہیں مثلاً علم من۔ دلِ ما۔ دستِ تو۔ پائے شما۔ دلِ وے۔ دلِ ایشاں۔

فائدہ۔ چند لفظیں بجائے ضمائر کے مستعمل ہیں۔ جیسے بندہ۔ مخلص وغیرہ۔ بجائے متکلم کے۔ مثلاً بندہ خبر ندارم۔ قبلہ وصاحب وغیرہ بجائے مخاطب کے مثلاً قبلہ چہ می فرمایند۔ صاحب چہ می فرمایند۔ مومی الیہ وغیرہ بجائے غائب کے۔

اسم اشارہ۔ وہ ہے کہ واسطے تعین مشارٌالیہ کے موضوع ہوا ہے اُس کے لئے دو لفظیں مشہور ہیں ایں قریب کے لئے۔ آں بعید کے لئے۔ جمع اُس کی حسب قاعدہ آتی ہے یعنی ذی روح کے لئے ایناں و آناں۔ وغیر ذی روح کے لئے اینہا و آنہا۔ مگر کبھی آنہا کا استعمال ذی روح کے لئے بھی آتا ہے۔ ؎

آنہا کہ بصد زباں سخن می گفتند آیا چہ شنیدند کہ خاموش شدند

اسم موصول وہ کلمہ ہے کہ بدون ایک جملہ کے (جس کو صلہ کہتے ہیں) کلام کا جزو نہیں ہو سکتا اور وہ جملہ بطور بیان اُس اسم کے ہوتا ہے اور اُس میں ایک ضمیر اسم موصول کی طرف پھرتی ہے۔ اسم موصول یہ ہیں ہر نکرہ معرفہ ہو یا جمع یائے توصیفی اور کاف صلہ سے مل کر مثلاً کسیکہ۔ چیزیکہ۔ کسانیکہ۔ چیزہا یکہ۔

۱۔ **فائدہ**۔ ام ایں کا قائم مقام ہے مگر صرف تین لفظوں میں آتا ہے۔ امروز۔ امشب۔ امسال۔

۲۔ **فائدہ**۔ چناں چنیں۔ چنوں ہمچنیں۔ اشارے کا کام دیتے ہیں۔

اسم اشارہ واحد وجمع تنہا یا کسی اسم سے مل کر مع کاف صلہ یا لفظ چہ۔ جیسے آنکہ۔ آنانکہ۔ اینکہ۔ اینانکہ۔ آنہانکہ۔ آں کسکہ۔ آں کسانکہ۔ انچہ۔ اینچہ۔ آنہاچہ۔ اینہاچہ۔ لفظ ہر تنہا یا کسی نکرہ یا اسم اشارہ سے۔ یا اسم اشارہ ونکرہ دونوں سے مل کر مع کاف صلہ یا لفظ چہ جیسے ہر کہ۔ ہر کسیکہ۔ ہر آنکہ۔ ہر آں کس کہ۔ ہر چہ۔ ہر انچہ۔ مثلاً ہر کس کہ بدکرد نیکی ندید۔ کسانیکہ بدکردند نیکی ندیدند۔ ہر چہ یا آنکہ گفتی راست ودرست بود۔ آنہاچہ یا آنہاکہ کردی ناصواب بود۔

فائدہ۔ اسم مفعول کو باعتبار نکرہ واسم اشارہ کے واحد وجمع کہتے ہیں مثلاً کسیکہ۔ آنکہ۔ ہر کسیکہ۔ ہر آنکہ واحد ہے وکسانیکہ۔ آنانکہ۔ آنہاکہ جمع ہے۔

معہود۔ دو ہیں۔ معہود ذہنی ومعہود خارجی۔ **معہود ذہنی** وہ نکرہ کہ متکلم اور مخاطب کے ذہن میں متعیّن ہو۔ مثلاً دوست سے خاص زید مراد ہو۔

معہود خارجی۔ وہ نکرہ کہ بقرینۂ مقالیہ یا کسی خاص وجہ سے ذات خاص پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً۔ ع شبے نعلبندے وپالاں گرے ❊ حقِ خویش می خواستند از خرے خراز پائے رنجیدہ ولشپت ریش ❊ بفگندشاں نعل وپالانِ خویش ❊ شعر ثانی میں خر سے وہی خر مراد ہے جس کا ذکر شعر اوّل میں ہوا ہے۔

مضاف۔ جو نکرہ معرفہ کی پانچوں اقسام مذکورہ کی طرف مضاف ہو۔ وہ بھی معرفہ ہے۔ جیسے غلام زید۔ کتاب من۔ اسپ آں مرد۔ ہمراہی شخصیکہ دی روز آمدہ بود۔ پسر دوست۔ (مضاف کا مفصل بیان نحو میں کیا جائے گا۔

منادیٰ۔ وہ ہے جو بذریعہ حرف ندا کے پکارا جائے۔ جیسے اے مرد۔ اے زن۔ (ندا کا بیان بحث حرف میں کیا جائے گا)

Scanned by CamScanner

بیان مصدر

مصدر۔ وہ اسم ہے جو کسی شئے کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے اور اُس سے اسم اور فعل مشتق ہوں علامت اُس کی یہ ہے کہ اُس کے آخر میں دن یا تن ہو اس کی دو قسمیں ہیں۔ وضعی۔ غیر وضعی۔ وضعی وہ ہے جسے واضع فارسی نے بنایا ہو۔ مثلاً گفتن۔ غیر وضعی۔ وہ ہے کہ کسی غیر زبان کے لفظ میں علامت مصدر بڑھا دیں۔ مثلاً طپیدن۔ چلیدن۔ مصدر وضعی و غیر وضعی کبھی متصرّف ہوتا ہے یعنی جس سے تمام افعال مشتق ہوں جیسے گفتن۔ اور کبھی مقتضب یعنی وہ کہ جس سے تمام افعال مشتق نہ ہوں۔ مثلاً آہختن۔

بیانِ مشتق

مشتق۔ وہ اسم ہے کہ مصدر سے نکلا ہو اُس کی چھ قسمیں ہیں۔ اسم فاعل۔ اسم مفعول۔ اسم حالیہ۔ اسم ظرف۔ اسم آلہ۔ حاصل مصدر۔

اسم فاعل۔ وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے کہ اُس کے ساتھ فعل قائم ہو۔ اُس کی دو قسمیں ہیں۔ قیاسی۔ سماعی۔ قیاسی امر حاضر کے آخر ندہ لگانے سے بنتا ہے۔ جیسے گویندہ سماعی۔ (جس کو اسم فاعل ترکیبی اور

۱۔ فائدہ۔ صرف دن یا تن ہونے سے مصدر نہیں ہوسکتا جب تک کسی کام کا ہونا یا کرنا نہ سمجھا جائے بس گردن۔ آبستن۔ مصدر نہیں ہے۔

۲۔ فائدہ۔ فعل بھی مشتق ہے کیونکہ وہ بھی مصدر سے نکالا گیا ہے۔ کرد۔ کند وغیرہ کردن سے بنے ہیں۔

۳۔ فائدہ۔ عربی کا اسم فاعل کثرت سے فارسی میں مستعمل ہے وہ اکثر فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے عاقل۔ جاہل۔ فاضل وغیرہ اس کے اور بہت سے اوزان ہیں کہ وہ فارسی میں بھی مستعمل ہیں جیسے منعم۔ مضارع۔ مستقبل۔ متصرف۔ متفاوت۔ مسرف۔ مترجم وغیرہ۔

Scanned by CamScanner

صفت مشبہ بھی کہتے ہیں) کئی طرح پر بنتا ہے۔ امر حاضر کے آخر الف فاعلی بڑھانے سے مثلاً گویا۔ دانا۔ شکیبا۔ امر و ماضی مطلق کے آخر گار زیادہ کرنے سے۔ مثلاً آمرزگار۔ پروردگار۔ امر حاضر پر کوئی اسم لانے سے۔ مثلاً سخن گو۔ غریب نواز۔ الف و نون فاعلی امر پر لانے سے۔ جیسے پرّاں۔ پرّاں۔ پرساں۔ ترساں۔

اسم مفعول۔ وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہو وہ بھی دو قسم پر ہے۔ قیاسی۔ سماعی۔ **قیاسی** ماضی مطلق کے آخر ۃ زیادہ کرنے سے بنتا ہے۔ مثلاً گفتہ۔ **سماعی**۔ الف مفعولی کے بڑھانے سے اور امر حاضر پر کوئی اسم لانے سے یا الف و نون بڑھانے سے بنتا ہے۔ جیسے پذیرا۔ دل پسند۔ پامال۔ دست پرور۔ پارچہ بیز۔ بریاں۔

اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے کہ ہیئت فاعل یا مفعول کی بیان کرے وہ امر حاضر کے آخر الف و نون زیادہ کرنے سے بن جاتا ہے۔ مثلاً خنداں۔

اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے کہ دلالت کرتا ہے مکان یا زمان پر ۲؎ اُس کی دو

۱۔ فائدہ۔ اسم فاعل و صفت مشبہ میں یہ فرق ہے کہ اسم فاعل میں معنی فاعلی بطور عارضی پائے جاتے ہیں۔ جیسے خوابندہ سونے والے کو اُس وقت تک کہیں گے جب تک وہ سوتا ہے برخلاف صفت مشبہ کے اُس میں معنی فاعلی بطور ثبات و قیام پائے جاتے ہیں جیسے گویا۔ اُس شخص کو کہیں گے جس کی ذات میں گویائی پائی جاوے گو اس وقت کچھ نہ کہتا ہو۔ فارسی میں صفت مشبہ مثل عربی کے ہمیشہ مشتق نہیں ہوتی بلکہ اکثر اسم ذات سے بانواع مختلف و اطوار گوناگوں بنا لیتے ہیں۔ جیسا صفحہ ۴ فصل اسم میں گذر چکا۔

۲۔ فائدہ۔ عربی کا اسم مفعول کثرت سے فارسی میں بھی مستعمل ہے اکثر مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے مجہول۔ معلوم۔ مغرور۔ مشہور۔ ممنوع۔ مفتوح وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اوزان اسم مفعول عربی کے بھی فارسی میں مستعمل ہیں جیسے مختصر۔ مطول۔ مسلسل۔ مترجم۔ مستقل۔ مجمل۔ مخاطب وغیرہ

Scanned by CamScanner

قسمیں ہیں۔ ظرفِ مکان۔ ظرفِ زمان۔ ظرف مکان۔ امر حاضر پر کوئی اسم زیادہ کرنے سے یا کسی اسم پر گاہ۔ داں۔ ستاں وغیرہ بڑھانے سے بنتا ہے۔ جیسے زرخیز۔ آب ریز۔ بدررو۔ خوابگاہ۔ جامہ داں۔ سرمہ داں۔ ادبستاں۔ خارستاں

اسم ظرف زمان بھی کسی اسم زمان یا مصدر پر گاہ۔ ہنگام زیادہ کرنے سے بنتا ہے۔ جیسے سحرگاہ۔ ہنگام رفتن وغیرہ۔

اسم آلہ وہ ہے جو فعل کا واسطہ یعنی اوزار ہو۔ اور وہ امر حاضر پر کوئی اسم زیادہ کرنے سے بنتا ہے۔ مثلاً جاروب۔ فتیلہ سوز وغیرہ۔ کبھی امر پر ہائے مختفی زیادہ کرنے سے بنتا ہے۔ مثلاً اُسترہ۔ مالا (کرنی) کوبہ (مونگری) وغیرہ۔

حاصل مصدر وہ ہے کہ جس سے کیفیت مصدر کی سمجھی جاوے اور وہ کئی طرح پر آتا ہے۔ اکثر امر پر شین بڑھانے سے۔ مثلاً دانش۔ اور اکثر یا اسم صفت یا اسم موصول یا اسم فاعل پر یائے مصدری بڑھانے سے۔ اس صورت میں ہائے فاعلی ومفعولی گاف سے بدل جائے گی۔ جیسے خموشی۔ خرمندی۔ پرستندگی۔ آزردگی

کبھی صرف ماضی مطلق کا صیغہ۔ جیسے گفت۔ صرف امر کا صیغہ۔ جیسے آزار۔ امرِ حاضر کے آخر اک زیادہ کرنے سے۔ مثلاً خوراک۔ پوشاک۔ امرِ حاضر پر کوئی اسم بڑھانے سے۔ جیسے قدمبوس۔ دسترس۔ خونریز۔ ماضی وامر کے ملنے سے

---

۱ فائدہ۔ اسم ظرف مکان کبھی مشتق ہوتا ہے، اور کبھی نہیں اور اسم ظرف زمان فارسی میں مشتق نہیں ہوتا ہے

۲۔ فائدہ۔ عربی کا اسم ظرف بھی فارسی میں مستعمل ہے۔ جیسے مشرق۔ مغرب۔ مدرسہ۔ مطلع۔ محکمہ وغیرہ۔

۳۔ فائدہ۔ عربی میں اسم آلہ کے تین وزن ہیں وہ بھی فارسی میں مستعمل ہیں جیسے مقراض بفتح مسطر مطہرہ

۴۔ فائدہ۔ حاصل مصدر کے بننے کے دو طریقہ اوّل کے قیاسی ہیں باقی سماعی۔

مثلاً گفتگو. جستجو. کشتکار۔ ماضی کے آخر آر بڑھانے سے۔ جیسے گفتار۔ رفتار۔ دیدار۔ کردار۔

بیانِ جمع

فارسی میں اسم باعتبار کمیت کے دو قسم پر ہے۔ واحد و جمع۔ واحد وہ کہ ایک پر دلالت کرے۔ جمع وہ ہے جو ایک سے زیادہ پر دلالت کرے وہ دو طور پر بنتی ہے۔ اوّل ذی روح کے لیئے ان لانے سے۔ مثلاً مرداں۔ اسپاں۔ ایسے اسم کے آخر جب الف یا واو ہوتا ہے تو اُس کے آخر میں ایک ی زیادہ کرتے ہیں مثلاً دانایاں۔ خوشخویاں۔ اور اگر ہائے مختفی ہوتی ہے تو اُس کو گاف سے بدل دیتے ہیں جیسے بندگاں۔ دوئم غیر ذی روح کے لیئے ہا لانے سے۔ جیسے گلہا۔ ایسے اسم کے آخر اگر الف یا واو ہو تو ی نہیں لاتے۔ اور اگر ہ ہو تو وہ گر جائے گی مثلاً ثناہا۔ گفتگوہا۔ بوہا۔ جامہا۔

تنبیہ کبھی جمع قاعدۂ مذکورہ کے خلاف بھی آتی ہے۔ آن غیر ذی روح کے لیئے جیسے چشماں۔ اَبرواں۔ بازواں وغیرہ۔ اور ہا ذی روح کے لیئے جیسے خرہا۔ اسپہا وغیرہ۔

بیانِ تذکیر و تانیث

فارسی اسما و صفات و افعال و ضمائر و اشارہ میں تذکیر و تانیث کا فرق

۱۔ فائدہ۔ بعض دفعہ عربی کے جمع کے الفاظ واحد ٹھہرا کر جمع بنالیتے ہیں مثلاً حوراں۔ عرساں۔ وقائعہا۔ احوالہا وغیرہ۔ اور کبھی فارسی الفاظ میں عربی قاعدے سے ات لگا کر جمع بنالیتے ہیں جیسے بیگیات۔ دستورات۔ ایسا ہی جات سے۔ جیسے نقشجات۔ کارخانجات وغیرہ بعض فارسی لفظوں کو عربی قاعدے سے جمع بنالیتے ہیں۔ مثلاً فرامین۔ القاب وغیرہ۔ بعض میں گاں لگا کر جمع بنالیتے ہیں جیسے زنگاں۔ لمبلگاں۔ طوطیگاں۔

۲۔ فائدہ۔ عربی کی بیشمار مؤنث لفظیں فارسی میں مستعمل ہیں۔ جیسے والد۔ والدہ۔ خال و خالہ۔ عم۔ عمہ وغیرہ اور دو لفظ ترکی کے فارسی میں مستعمل ہیں۔ جس میں علامت تانیث کی گئی ہے۔ خان۔ خانم۔ بیگ۔ بیگم۔

Scanned by CamScanner

نہیں ہے۔ مثلاً پدر گفت۔ مادر گفت۔ برادر بزرگ۔ خواہر بزرگ۔ آن مرد۔ آن زن۔

بیانِ تصغیر

مصغر وہ اسم ہے جس سے خردی اسمار کی سمجھی جائے اس کے لیے کاف تصغیر ماقبل مفتوح۔ چہ۔ یچہ۔ یزہ۔ ہائے مختفی اور واو معروف ہے۔ جیسے طفلک۔ باغچہ۔ سراچہ۔ دریچہ۔ مشکیزہ۔ آتشیزہ۔ بسرہ۔ دخترہ۔ بسرو۔ دخترو۔

فائدہ۔ حرف تصغیر کبھی واسطے ترحم کے بھی آتا ہے۔ جیسے طفلک۔ فرزندک۔ اور کبھی تعظیم کے لئے۔ جیسے بابک۔ اور کبھی تحقیر کے لئے جیسے مردک۔

فصل دوم دربیانِ فعل

فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی مستقل ہوں اور ایک زمانہ تین زمانوں ماضی حال۔ مستقبل۔ میں سے اس سے سمجھا جائے اس کی چھ قسمیں ہیں۔ ماضی۔ مضارع حال۔ مستقبل۔ امر و نہی۔ جاننا چاہیئے۔ کہ فعل کے لئے فاعل یعنی کرنے والا ضرور ہے۔ پس اگر فعل صرف فاعل کو چاہیئے اور مفعول کا محتاج نہ رہے تو وہ **فعل لازم** ہے اور اگر فاعل کے سوا مفعول کا بھی محتاج ہو تو **فعل متعدی** ہے۔ اگر فعل متعدی کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو وہ **فعل معروف** ہے جیسے زید عمر و را کشت۔ اگر مفعول کی طرف ہو تو وہ **فعل مجہول** ہے۔ جیسے زید کشتہ شد۔

فائدہ۔ بعض فعل لازم ایسے ہیں کہ سوائے فاعل کے ایک اور چیز کے محتاج

۱۔ توضیح جیسے احمد آمد محمود رفت۔ پس آمد و رفت فعل لازم ہیں کیونکہ فاعل پر ختم ہو گئے۔ مفعول کی حاجت نہ رہی۔

۲۔ توضیح جیسے احمد محمود را کشت۔ پس کشت فعل متعدی ہے کہ جب احمد کشت کہا جائے تو سننے والا پوچھتا ہے کہ کس کو مار ڈالا۔

Scanned by CamScanner

ہوتے ہیں اُن کو افعالِ ناقصہ کہتے ہیں۔ اِن کے فاعل کو اسم اور اُس دوسری چیز کو خبر کہتے ہیں۔ مثلاً زید عالم شد۔

فائدہ۔ بعض فعل متعدی ایک مفعول چاہتے ہیں۔ مثلاً دیدن۔ خریدن۔ نشاندن۔ پرانیدن۔ وغیرہ۔ مثلاً زید را دیدم۔ کنیزک را خریدم۔ اور بعض دُو مفعول۔ مثلاً دادن۔ سپردن۔ افروزانیدن۔ آمرزانیدن۔ مثلاً نامہ بزید دادم۔ فیروز را امانت سپردم۔

ہر فعل کی دو قسمیں ہیں مثبت۔ منفی۔ مثبت وہ فعل ہے کہ جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جاوے مثلاً گفت منفی وہ کہ نہ ہونے یا نہ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے نہ گفت۔

ہر فعل کے چھ صیغے ہوتے ہیں۔ واحد غائب۔ جمع غائب۔ واحد حاضر۔ جمع حاضر۔ واحد متکلم۔ جمع متکلم

ماضی وہ فعل ہے کہ جس سے زمانہ گذشتہ سمجھا جاوے وہ چھ ہیں مطلق۔ قریب۔ بعید۔ شکیہ۔ استمراری۔ تمنائی۔

ماضی مطلق۔ وہ ماضی ہے کہ زمانہ گذشتہ پر بدون لحاظ قریب و بعید کے

۱۔ فائدہ۔ بعض فعل متعدی وہ ہیں۔ کہ واضع نے اُن کو وضع کیا ہے۔ جیسے کردن۔ دادن وغیرہ بعض وہ جن کو قاعدے کے بموجب فعل لازم سے بنالیا ہے۔ جیسے پرسیدن۔ رسیدن سے۔ پرسانیدن رسانیدن سے۔

تنبیہ۔ اوپر کے چار فعل یعنی ماضی۔ مضارع۔ حال۔ مستقبل۔ مثبت منفی کہلاتے ہیں مگر امر و نہی کو مثبت اور منفی نہیں کہتے

توضیح۔ غائب وہ تیسرا شخص جس کا ذکر تم دوسرے شخص سے کرتے ہو۔ حاضر جو تمہارا مخاطب ہے سامنے ہو یا نہ ہو۔ متکلم بات کرنے والا۔

۲۔ فائدہ۔ حالت شرط میں ماضی کا صیغہ مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ جیسے اگر گفتی مردی۔

Scanned by CamScanner

دلالت کرتی ہے۔ مصدر کا نون اور اُس کے پہلے حرف کی حرکت دور کرنے سے ماضی مطلق کا صیغۂ واحد غائب بن جاتا ہے۔ اور اسی پر پانچوں ضمیر متصل بڑھانے سے باقی صیغے بنتے ہیں۔ جیسے گفت۔ گفتند۔ گفتی۔ گفتید۔ گفتم۔ گفتیم۔

ماضی قریب وہ جو ابھی گذرا ہو۔ اور زمانہ حال کے قریب ہو ماضی مطلق کے آخر **ہ** زیادہ کر کے صیغۂ واحد غائب میں **است** یا **ہست** اور باقی صیغوں کے آخر ضمیر متصل فاعلی (جس پر ہمزہ زیادہ ہو) لاویں تو ماضی قریب بن جاوے گی۔ جیسے گفتہ ہست گفتہ اند۔ گفتۂ۔ گفتہ اید۔ گفتہ ام۔ گفتہ ایم۔ اور کبھی ضمائر فاعلی است و ہست کے آخر زیادہ کرتے ہیں۔ مثلاً گفتہ است۔ گفتہ استند۔ گفتہ استی۔ گفتہ استید۔ گفتہ استم۔ گفتہ استیم۔ جیسے ع شنیدستم از راویانِ کلام۔

ماضی بعید وہ ہے کہ جس کو زمانۂ حال سے عرصہ زیادہ ہوا ہو۔ ماضی مطلق کے آخر **ہ** زیادہ کر کے لفظ **بود** بڑھانے سے اُس کا صیغۂ واحد غائب بن جاتا ہے باقی صیغے بعد بود کے ضمیر متصل فاعلی بڑھانے سے بنتے ہیں۔ جیسے گفتہ بود۔ گفتہ بودند گفتہ بودی۔ گفتہ بودید۔ گفتہ بودم۔ گفتہ بودیم۔

ماضی شکیہ (جس کو احتمالی بھی کہتے ہیں) وہ ہے جس سے زمانۂ گذشتہ میں کام کے ہونے یا نہ ہونے میں شک سمجھا جائے۔ اُس کا صیغۂ واحد غائب ماضی مطلق کے آخر **ہ** زیادہ کرنے اور آخر میں **باشد** کے بڑھانے سے بنتا ہے۔ باقی صیغے واحد غائب سے ضمیر متصل فاعلی کے بڑھانے سے بنتے ہیں۔ جیسے گفتہ باشد۔ گفتہ باشند۔ گفتہ باشی گفتہ باشید۔ گفتہ باشم۔ گفتہ باشیم۔

ماضی استمراری (اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں) وہ ہے کہ زمانہ گذشتہ میں

اُس کے فعل[ع] کی تواتر و تکرار پائی جائے یا اُس کا ختم ہونا نہ سمجھا جاتے۔ اس کے سب صیغے ماضی مطلق پر می یا ہمی بڑھانے سے بنتے ہیں۔ جیسے می گفت۔ می گفتند۔ می گفتی۔ می گفتید۔ می گفتم۔ می گفتیم۔ ہمی گفتند۔ الخ

ماضی تمنائی یا شرطیہ جس سے زمانہ گذشتہ میں کرنے کی آرزو یا شرط سمجھی جائے اور وہ ماضی مطلق کے تین صیغوں یعنی واحد غائب۔ جمع غائب۔ واحد متکلم میں یائے مجہول بڑھانے سے بن جاتی ہے۔ جیسے گفتے۔ گفتندے۔ گفتمے۔

فائدہ: ماضی تمنائی اور ماضی استمراری سے آرزو و شرط کا فائدہ حروفِ شرط و حروفِ تمنا کے بعد ہوتا ہے۔ اور اگر حرفِ شرط و حرفِ تمنا نہ ہو تو دونوں سے استمرار اور دوام سمجھا آتا ہے۔ جیسے شعر شنیدم کہ مردے براہِ حجاز ٭ بہر خطوہ کردے[۵۱] دو رکعت نماز ٭ اے می کرد۔ شعر مرا اے کاشکے مادر نزادے[۵۲] ٭ وگر می زاد پس شیرم ندادے ٭ اے نزادے و ندادے۔

مضارع وہ فعل ہے جس میں زمانہ حال و استقبال دونوں پائے جائیں۔ مضارع دو قسم پر ہے مضارع مطلق۔ مضارع دوامی۔ علامت مصدر کو گرا کر دال ساکن آخر میں ملا دیں اور پہلے حرف کو فتحہ دیویں تو مضارع مطلق بن جائے گا۔ جیسے پروردن سے پرورد۔ افشاندن سے افشاند۔ مگر واضح ہو کہ قبل علامتِ مصدر کے اِن گیارہ حروف سے جن کا مجموعہ (شرف آموزی سخن ہے) ایک حرف ضرور ہوتا ہے۔ اِن حروف میں وقت مضارع بنانے کے چار طور پر تغیر واقع ہوتا ہے (۱) تبدیلی کسی ایک یا دو سے (۲) حذف (۳) کسی حرف کی زیادتی (۴) ساکن کی تحریک

[۵۱] مثال تمنائی بمعنی استمراری ۱۲

[۵۲] مثال استمراری بمعنی تمنائی ۱۲

Scanned by CamScanner

مضارع بنانے میں حروف ماقبل علامتِ مصدر کے تغیّرات کا نقشہ

حروف ماقبل	کس سے بدلے گا	مصدر	صیغۂ مضارع
ش	رائے مہملہ	کاشتن گماشتن	کارد گمارد
	رائے مہملہ و دال	گشتن	گردد
	سین و یائے تحتانیہ	نوشتن	نویسد
	لام	ہشتن	ہلد
	مسلّم بعدِ تحریک	کُشتن	کُشد
ر	نون	کردن	کُند
	مسلّم بعدِ تحریک	بُردن خوردن	بَرد خَورد
ف	واو و یائے تحتانیہ	گفتن	گوید
	سین و بائے فارسی	خفتن	خُسپد
ا	ہائے ہوز	دادن	دہد
	محذوف	نہادن فتادن	نہد فتد
م	یائے تحتانیہ	آمدن	آید
	الف و یائے تحتانیہ	فرمودن	فرماید

Scanned by CamScanner

د	الف وشین معجمه	بودن	باشد
	مسلّم بعدِ تحریک	بودن	بُوَد
ز	زیادتی نون	زدن	زَنَد
	مسلّم بعدِ تحریک	ریدن	رِید
ی	محذوف	کشیدن	کشد
	ہائے ہوّز	رستن	رہد
	واو ویائے تحتانیه	شُستن	شوید
	یائے تحتانیه	آراستن	آراید
س	نون	شکستن	شِکند
	نون ودال مہمله	بستن پیوستن	بندد پیوندد
	زائے معجمه	برخاستن	برخیزد
	لام	گُسستن	گُسلد
خ	زائے معجمه	افروختن سوختن	افروزد سوزد
	سین مہمله	شناختن	شِناسد
	شین معجمه	فروختن	فروشد
ن	مسلّم بعدِ تحریک	راندن	رانَد

Scanned by CamScanner

مضارع دوامی ماضی شکیہ کے پہلے می یا ہمی بڑھانے سے بنتا ہے ۔ جیسے می گفتہ باشد ۔ می گفتہ باشند ۔ می گفتہ باشی ۔ می گفتہ باشید ۔ می گفتہ باشم ۔ می گفتہ باشیم ۔ ہمی گفتہ باشد ۔ ہمی گفتہ باشند الخ ۔

حال وہ فعل ہے کہ جس سے زمانۂ موجود سمجھا جاوے اُس کے صیغے مضارع مطلق پر می یا ہمی زیادہ کرنے سے بن جاتے ہیں ۔ مثلاً می گوید ۔ می گویند ۔ می گوئی ۔ می گوئید ۔ می گویم ۔ می گوئیم ۔ ہمی گوید ۔ ہمی گویند ۔ الخ

مستقبل وہ فعل ہے جس سے زمانہ آیندہ سمجھا جائے ۔ اگر خواہد کے چھ صیغے (یعنی خواہد ۔ خواہند ۔ خواہی ۔ خواہید ۔ خواہم ۔ خواہیم) ماضی مطلق کے صیغۂ واحد غائب پر زیادہ کریں تو مستقبل کے صیغے بن جائیں گے ۔ مثلاً خواہد گفت ۔ خواہند گفت ۔ خواہی گفت ۔ خواہید گفت ۔ خواہم گفت ۔ خواہیم گفت ۔

امر وہ فعل ہے کہ جس میں حکم کسی کام کرنے کا ہو وہ دو قسم پر ہے ۔ امر مطلق ، امر دوامی
امر مطلق کا صیغۂ واحد حاضر ، مضارع حاضر سے بعد دور کرنے ی کے بن جاتا ہے ۔ جیسے گوئی سے گوئے ۔ ضمیر جمع حاضر کے لانے سے صیغۂ جمع حاضر ہو جاتا ہے ۔ مثلاً گوئید ۔ امر غائب و امر متکلم کا صیغہ فارسی میں علیحدہ نہیں ہوتا ۔ بعینہ مضارع کا صیغہ ہے مگر فرق کے لئے اکثر حرفِ با بڑھاتے ہیں ۔ جیسے بگوید ۔ اور کبھی لفظ باید کہ ۔ لازم کہ ریا اس کے

---

۱ ۔ **فائدہ** ۔ اہل زبان کبھی اپنے محاورے میں صیغۂ حال کو استقبال کی جگہ بولتے ہیں ۔ جیسے باش کہ من ہم می آیم

۲ ۔ **فائدہ** ۔ امر کا حکم فوراً زمانۂ حال پر پڑتا ہے ۔ جیسے بازار برو ۔ کتاب وا کن ۔ اگر استقبال منظور ہو تو اُس کے لئے کوئی لفظ بڑھانا پڑتا ہے ۔ جیسے صبح برخیز ۔ شام خانہ بیا ۔

۳ ۔ **فائدہ** ۔ امر حاضر کے اوّل ب لگانی واجب ہے مگر نظم میں نہ لگانا بھی جائز ہے اور اس کے عوض پر ہم لگا جاتا ہے ۔ جیسے بیفگن ۔ بگیر ۔ برگیر ۔

Scanned by CamScanner

مانند اور لفظ) بڑھاتے ہیں۔ مثلاً بگوید۔ بگویند۔ بگو۔ بگوئید۔ بگویم۔ بگوئیم۔
امر دوامی دو طرح پر بنتا ہے۔ اول مضارع دوامی سے مانند امر مطلق یعنی بحذف
ی جیسے می گفتہ باش۔ دوم امر مطلق پر می بڑھانے سے جیسے می گو۔
نہی وہ فعل ہے کہ جس میں کام کے نہ کرنے کا حکم ہوا ور وہ امر حاضر پر میم اور امر غائب
و متکلم پر نون زیادہ کرنے سے بنتی ہے۔ مثلاً نگوید نگویند۔ مگو۔ مگوئید۔ نگویم نگوئیم۔
فائدہ۔ نہی بھی دو قسم پر ہے۔ نہی مطلق جس کا بیان اوپر ہوا۔ نہی دوامی اور وہ
نہی مطلق پر می بڑھانے سے بنتی ہے۔ جیسے می مگو۔ می مدار۔

بیانِ مجہول

مجہول کی تعریف اوپر بیان ہوئی اُس کے بنانے کا یہ قاعدہ ہے کہ جس فعل کا مجہول
بنانا منظور ہو وہی فعل مصدر رشدن سے بنا کر ماضی کے آخر ہائے مختفی بڑھا کر اُس کے بعد زیادہ
کریں یعنی مطلق کے لئے شد کے چھ صیغے زیادہ کریں۔ اور قریب کے لیے شدہ است
بعید کے لئے شدہ بود شکیہ کے لئے شدہ باشد۔ استمراری کے لیے می شد تمنائی
کے لئے شدے۔ مضارع کے لئے شود حال کے لئے می شود۔ استقبال کے لئے
خواہد شد۔ امر کے لئے شو نہی کے لئے مشو کے کُل صیغے زیادہ کریں مثلاً
اثبات فعل ماضی مطلق مجہول۔ گفتہ شد۔ گفتہ شدند۔ گفتہ شدی گفتہ شدید
گفتہ شدم۔ گفتہ شدیم۔
اثبات فعل ماضی قریب مجہول۔ گفتہ شدہ است۔ گفتہ شدہ اند۔ گفتہ شدۂ
گفتہ شدہ اید۔ گفتہ شدہ ام۔ گفتہ شدہ ایم۔
اثبات فعل ماضی بعید مجہول۔ گفتہ شدہ بود۔ گفتہ شدہ بودند۔ گفتہ شدہ بودی

Scanned by CamScanner

گفته شده بودید۔ گفته شده بودم۔ گفته شده بودیم۔

اثبات فعل ماضی شکیہ مجہول۔ گفته شده باشد۔ گفته شده باشند۔ گفته شده باشی۔ گفته شده باشید۔ گفته شده باشم۔ گفته شده باشیم۔

اثبات فعل ماضی استمراری مجہول۔ گفته می شد۔ گفته می شدند۔ گفته می شدی گفته می شدید۔ گفته می شدم۔ گفته می شدیم۔

اثبات فعل ماضی تمنائی مجہول۔ گفته شدے۔ گفته شدندے۔ گفته شدمے۔

اثبات فعل مضارع مجہول۔ گفته شود۔ گفته شوند۔ گفته شوی۔ گفته شوید۔ گفته شوم۔ گفته شویم۔

اثبات فعل حال مجہول۔ گفته می شود۔ گفته می شوند۔ گفته می شوی۔ گفته می شوید۔ گفته می شوم۔ گفته می شویم۔

اثبات فعل مستقبل مجہول۔ گفته خواہد شد۔ گفته خواہند شد۔ گفته خواہی شد گفته خواہید شد۔ گفته خواہم شد۔ گفته خواہیم شد۔

فعل امر مجہول۔ بگفته شود۔ بگفته شوند۔ بگفته شوی۔ بگفته شوید۔ بگفته شوم۔ بگفته شویم۔

فعل نہی مجہول۔ گفته نشود۔ گفته نشوند۔ گفته نشوی۔ گفته نشوید۔ گفته نشوم۔ گفته نشویم۔

بیانِ منفی

سوائے امر و نہی کے جملہ افعال پر نون زیادہ کرنے سے صیغہ منفی بن جاتا ہے۔ فعل مجہول

فائدہ۔ جمع استمراری و جمع حالی کا گفته پر لانا بھی جائز ہے۔ جیسے می گفته شد۔ می گفته شدند الخ۔ می گفته شود۔ می گفته شوند

میں حرف نفی گفتہ وشدن کے مصدر پر لگانا جائز ہے مگر شدن کے مشتقات پر بہتر ہے۔ مثلاً

بحث نفی فعل ماضی مطلق معروف۔ نگفت۔ نگفتند۔ نگفتی۔ نگفتید۔ نگفتم۔ نگفتیم۔

بحث نفی فعل ماضی مطلق مجہول۔ گفتہ نشد۔ گفتہ نشدند۔ گفتہ نشدی۔ گفتہ نشدید۔ گفتہ نشدم۔ گفتہ نشدیم۔ نگفتہ شد الخ

بحث نفی فعل ماضی قریب معروف۔ نگفتہ است۔ نگفتہ اند۔ نگفتہ۔ نگفتہ اید۔ نگفتہ ام۔ نگفتہ ایم۔

بحث نفی فعل ماضی قریب مجہول۔ گفتہ نشدہ است۔ گفتہ نشدہ اند۔ گفتہ نشدہ۔ گفتہ نشدہ اید۔ گفتہ نشدہ ام۔ گفتہ نشدہ ایم۔ نگفتہ شدہ است الخ

بحث نفی فعل ماضی بعید معروف۔ نگفتہ بود۔ نگفتہ بودند۔ نگفتہ بودی۔ نگفتہ بودید۔ نگفتہ بودم۔ نگفتہ بودیم۔

بحث نفی فعل ماضی بعید مجہول۔ گفتہ نشدہ بود۔ گفتہ نشدہ بودند۔ گفتہ نشدہ بودی۔ گفتہ نشدہ بودید۔ گفتہ نشدہ بودم۔ گفتہ نشدہ بودیم۔ نگفتہ شدہ بود الخ

بحث نفی فعل ماضی شکیہ معروف۔ نگفتہ باشد۔ نگفتہ باشند۔ نگفتہ باشی۔ نگفتہ باشید۔ نگفتہ باشم۔ نگفتہ باشیم۔

بحث نفی فعل ماضی شکیہ مجہول۔ گفتہ نشدہ باشد۔ گفتہ نشدہ باشند۔ گفتہ نشدہ باشی۔ گفتہ نشدہ باشید۔ گفتہ نشدہ باشم۔ گفتہ نشدہ باشیم۔ نگفتہ شدہ باشد الخ

بحث نفی فعل ماضی استمراری معروف۔ نمی گفت۔ نمی گفتند۔ نمی گفتی۔ نمی گفتید۔ نمی گفتم۔ نمی گفتیم۔

Scanned by CamScanner

بحث نفی فعل ماضی استمراری مجہول۔ گفتہ نمی شد۔ گفتہ نمی شدند۔ گفتہ نمی شدی۔ گفتہ نمی شدید۔ گفتہ نمی شدم۔ گفتہ نمی شدیم۔

بحث نفی فعل ماضی تمنائی معروف۔ نگفتے۔ نگفتندے۔ نگفتمے۔

بحث نفی فعل ماضی تمنائی مجہول۔ گفتہ نشدے۔ گفتہ نشدندے گفتہ نشدمے۔ نگفتہ شدے۔ الخ

بحث نفی فعل مضارع معروف۔ نگوید۔ نگویند۔ نگوئی نگوئید۔ نگویم۔ نگوییم۔

بحث نفی فعل مضارع مجہول۔ گفتہ نشود۔ گفتہ نشوند۔ گفتہ نشوی۔ گفتہ نشوید۔ گفتہ نشوم۔ گفتہ نشویم۔ نگفتہ شود۔ الخ۔

بحث نفی فعل حال معروف۔ نمی گوید۔ نمی گویند۔ نمی گوئی۔ نمی گوئید۔ نمی گویم۔ نمی گوییم۔

بحث نفی فعل حال مجہول۔ گفتہ نمی شود۔ گفتہ نمی شوند۔ گفتہ نمی شوی۔ گفتہ نمی شوید۔ گفتہ نمی شوم۔ گفتہ نمی شویم۔ نگفتہ می شود۔ الخ۔

بحث نفی فعل مستقبل معروف۔ نخواہد گفت۔ نخواہند گفت۔ نخواہی گفت نخواہید گفت۔ نخواہم گفت۔ نخواہیم گفت۔

بحث نفی فعل مستقبل مجہول۔ گفتہ نخواہد شد۔ گفتہ نخواہند شد۔ گفتہ نخواہی شد۔ گفتہ نخواہید شد۔ گفتہ نخواہم شد۔ گفتہ نخواہیم شد۔ نگفتہ خواہد شد الخ۔

فصل سوم دربیان حروف

حرف وہ کلمہ ہے کہ معنی مستقل نہ رکھتا ہو۔ یعنی بدون ملائے دوسرے کلمہ کے

Scanned by CamScanner

اُس کے معنی سمجھ میں نہ آویں جیسے از۔ تا اس مثال میں۔ رفتم ازیں جا تا آں جا۔
اس کی دو قسمیں ہیں۔ حروفِ تہجی۔ حروفِ معنوی۔

حروفِ تہجی۔ وہ صرف واسطے ترکیب کلمات کے موضوع ہیں۔ وہ فارسی مروّجہ حال میں (جو الفاظ عربیہ سے مخلوط ہے) تبیس ہیں۔ منجملہ اُن کے آٹھ مخصوصہ عربی ہیں۔ ث۔ح۔ص۔ض۔ط۔ظ۔ع۔ق۔ اور چار مخصوصہ فارسی پ۔چ۔ژ۔گ۔ اور بیس دونوں زبانوں میں مشترک ہیں۔

حروفِ معنوی۔ وہ ہیں کہ فعل یا اسم سے مل کر کسی معنی کا فائدہ دیں۔ ان میں بعض مفرد ہیں۔ اور بعض مرکب۔ مفرد گیارہ ہیں۔

بیان حروفِ مفردہ

۱۔ الف۔ اِس کے خواص اور معنی چودہ ہیں۔

۱۔ زائد۔ اوّل اسم اور فعل کے۔ بعض میں بضرورتِ شعر۔ مثلاً شعر ابے حکم شرع آب خوردن خطاست + اور بعض میں بلاضرورت نظم ونثر میں جیسے اسکندر افلاطون۔ افشردن۔ افزودن۔ افشرد۔ افزود۔ درمیان میں اسم کے جیسے نگونسار۔ سبکسار۔ آخر میں فعل کے۔ جیسے رفتار۔ گفتار۔

۲۔ اتصال۔ درمیان دو کلمہ ہمجنس کے۔ جیسے دمادم۔ سراسر۔

۳۔ عطف۔ درمیان دو کلمہ غیر متجانس کے۔ جیسے سراپا۔ تگاپو۔

۴۔ دعا۔ جیسے دہاد۔ کناد۔ شواد۔ میراد۔ بناد۔

تنبیہ۔ الف اتصال و عطف و دعا۔ درمیان میں آتے ہیں۔ اور باقی آخر کلمہ میں۔

فائدہ۔ الف دعائیہ اکثر مضارع غائب میں آتا ہے۔ اور کبھی متکلم میں بھی۔ جیسے شنوام۔

Scanned by CamScanner

۵۔ کثرت۔ جیسے خوشا۔ بدا۔ ۶۔ قسم۔ جیسے حقا۔ ربا۔
۷۔ مصدر۔ جیسے فراخا۔ پہنا ۸۔ تکلم۔ جیسے ملاذا۔
۹۔ ندا۔ جیسے خدایا۔ ۱۰۔ ندبہ۔ جیسے دریغا۔ حسرتا۔
۱۱۔ فاعلی جیسے شکیبا۔ توانا۔ گویا۔ دانا ۱۲۔ مفعولی۔ جیسے۔ پذیرا۔
۱۳۔ لیاقت۔ جیسے توانا ۱۴۔ تعظیم۔ آخر اسما اور القاب میں جیسے صاحبا۔

۲۔ ب۔ اس کے خواص اور معنی ۱۸ ہیں

۱۔ زائد۔ فعل امر پر ہمیشہ۔ مضارع پر اکثر۔ ماضی پر کم۔ جیسے بگو۔ بگوید۔ بگفت۔ اسم پر۔ جیسے۔ بغیر۔ بجز۔
۲۔ مفعولی جس کو تعدیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے نامہ بزید دادم۔ پیام بغیر وزر رسانیدم
۳۔ قسمیہ ؎ اگر بوسہ بر خاک مرداں زنی + بمردی کہ پیش آیدت روشنی +
۴۔ تعلیلیہ ع۔ بتوفیق طاعت دلش زندہ دار +
۵۔ عوض۔ ع بدیں اے فرومایہ دنیا مخر +
۶۔ معیت۔ جیسے بخیر و عافیت در یکجا رسیدم۔
۷۔ ظرفیہ بمعنی در ع بسایہ درش نیک مردے بخفت + (اس میں در زائد ہے)۔
۸۔ استعلا بمعنی بر ع بگردن بر از خلد پیرایہ + (اس میں بر زائد ہے)۔
۹۔ استعانت۔ ع۔ بشمشیر احسان و فضلم بکشت +

۱۔ فائدہ۔ بائے زائد ہمیشہ اسم پر مفتوح ہوتی ہے۔ اور جب فعل پر داخل ہو اگر اس کا پہلا حرف مضموم ہے۔ تو بائے زائد کو مضموم پڑھو نہیں تو مکسور۔ مثلاً بکُن۔ بگیر۔ بُرد۔
۲۔ فائدہ۔ بائے ظرفیہ و استعلا جب در و بر کے ساتھ آتی ہے تو اس صورت میں دونوں میں سے ایک کو زائد کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال مندرجہ کتاب سے ظاہر ہے۔

Scanned by CamScanner

۱۰۔ اتصال۔ دو متجانس میں۔ جیسے۔ دمبدم۔ دست بدست۔ گوبگو۔
۱۱۔ ابتدائیہ ع بنامِ آنکہ نامش حرزِ جانہاست ؛
۱۲۔ مقداریہ ع بموئیش جاں درتن آویختہ ؛
۱۳۔ توسل وبرکت ع بحقت کہ چشمم زباطل بدوز ؛
۱۴۔ بمعنی برائے ؎ من آنم کہ اسپانِ شہ پرورم ؛ بخدمت دریں مرغزار اندرم ؛
۱۵۔ بمعنی طرف وجانب ؎ چنیں دارم از پیر دانندہ یاد ؛ کہ شوریدۂ سر بصحرا نہاد ؛
۱۶۔ تشبیہ۔ ؎ گاہے بصنع ماشطہ بر روئے خوب روز ؛ گلگونہ شفق کند و سرمۂ دجے ؛
۱۷۔ موافقت ؎ رعیت درخت ست اگر پروری ؛ بکام دل دوستاں برخوری ؛
۱۸۔ بمعنی قُرب ع طمع بُرد شخصے بصاحب دلے ؛

۳۔ ت۔ اس کے خواص ومعنی چار ہیں ،

۱۔ ضمیر مفعولی آخر فعل میں جیسے گفتمت۔ ۲۔ ضمیر اضافی آخر اسم میں جیسے دستت۔
۳۔ بمعنی خود ع بردانِ راہت کہ راہم بدہ ؛
۴۔ زائد۔ اسم کے آخر میں۔ جیسے یاداشت۔ فراشت۔ بالشت۔

۴۔ چہ۔ اس کے چھ خواص اور چھ معنی ہیں ،

۱۔ تصغیر۔ اسم کے آخر میں۔ جیسے باغچہ۔ سراچہ۔ طاقچہ۔ دریچہ۔
۲۔ استفہام۔ اسم وفعل کے اوّل میں جیسے۔ چہ کردی۔ چہ می کنی۔ او چہ کارہ است
۳۔ علت ع چہ در بند خاری تو گلدستہ بند۔

۱۔ فائدہ۔ یہ ت فی الحقیقت ضمیر متصل اضافی ہے۔
۲۔ فائدہ۔ چہ استفہامیہ غیر ذوی العقول کے استفہام کے لئے آتا ہے اور اس کی جمع چہا آتی ہے۔

۴. کثرت ع چه زرہا بخاک سیہ در کنند ٭
۵. تسویہ وعموم۔ وقت مکرر آنے کے ع زہر نہادن چہ سنگ وچہ زر ٭
۶. تعجب ف بنام خدای کنم ابتدا ٭ چہ نام است اﷲ نام خدا ٭

۵۔ شین ۔ اور وہ پانچ معنوں کے لیے مستعمل ہے

۱۔ضمیر متصل مفعولی ع بہ پیرمی از یخ و بارش مکن ٭
۲۔ضمیر متصل اضافی۔ جیسے دلش۔ دستش۔ پایش۔ سرش۔
۳۔بمعنی خود ف ندانست ازاں دانہ خوردنش ٭ کہ دہر افگند دام در گردنش ٭
فائدہ ۔ یہ شین اصل میں ضمیر اضافی ہے ۔
۴۔بمعنی حاصل مصدر۔ آخر میں امر کے ۔جیسے دانش بخشش۔بینش۔
۵۔ زائد۔ جیسے او بخانۂ خودش رفت ۔

۶۔ کاف

کاف۔ آخر اسما میں تصغیر کے لئے آتا ہے۔ جیسے طفلک۔ (دیکھو بحث تصغیر) اور کبھی زائد۔ جیسے کنیزک۔ زلوک۔ پرستوک۔ شارک۔

کاف جب کسی اسم سے متصل نہ ہو تو معانی ذیل کا فائدہ دیتا ہے۔
۱۔بیانیہ ف شنیدم کہ دارائے فرخ تبار ٭ ز لشکر جدا ماند روزے شکار ٭
۲۔موصولہ ع کشند زہر جائے کہ تریاک نیست ٭
۳۔بمعنی ہر کس ف دگر کشور آباد بیند بخواب ٭ کہ دارد دل اہل کشور خراب ٭

۱۔ فائدہ ۔حاصل مصدر کے شین کا ماقبل ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔
۲۔ فائدہ۔ کاف بیانیہ نظم میں محذوف بھی ہوجاتا ہے۔

Scanned by CamScanner

۴۔ تعلیلیہ۔ بمعنی زیراکہ یا بمعنی تاکہ ؎ لعبحر ادراز دشمناں داریاک ٭ کہ در خانہ باشد گل از خار پاک ٭ دل دردمنداں برآور زبند ٭ کہ ہرگز نباشد دلت دردمند ٭

۵۔ استفہامیہ ؎ اگر بر جفا پیشہ بشتافتے ٭ کہ از دست قہرش اماں یافتے ٭

۶۔ بمعنی بلکہ ؎ نیامد در آیام او بردلے ٭ نگویم کہ خارے کہ برگِ گلے ٭

۷۔ بمعنی مثل ع نیست در جنگ سلح دار کہ او ٭

۸۔ تفضیلیہ بمعنی از ع دلِ دوستاں جمع بہتر کہ گنج ٭

۹۔ جوابیہ۔ قسم و ہائے توسّل و تعجّب و استفہام کے جواب میں آتا ہے۔ مثال جوابِ قسم ؎ بمردی کہ ملکِ سراسر زمیں ٭ نیرزد کہ خونے چکد بر زمیں ٭

جوابِ ہائے توسّل ع بنور کجے فردا بنارم مسوز۔

جوابِ تعجب و استفہام ع۔ چہ کردی کہ آمد بجانب خلاص ٭

۱۰۔ مفاجاتیہ ؎ ہنوز از تُربت آلودہ روئش بخاک ٭ کہ کاش برآورد نیزداں پاک ٭

۱۱۔ دعائیہ ؎ چو پاکانِ شیراز خاکی نہاد ٭ ندیدم کہ رحمت براں خاک باد ٭

۱۲۔ شرطیہ ؎ برو پنج نوبت بزن بر درت ٭ کہ یارِ موافق بود در برت ٭

۱۳۔ عطف بمعنی واؤ۔ یا بمعنی یا۔ اوّل کی مثال ؎ لبے تیرو دی ماہ وارُدی بہشت ٭ برآید کہ با خاک باشیم و خشت ٭ دوّم کی مثال ؎ نہ بیند کسے در سماعت خوشی ٭ مگر وقت رفتن کہ دم درکشی ٭ اے وقت رفتن یا وقتِ دم درکشیدنِ تو۔

۱۴۔ زائد۔ ؎ کہ چنیں نباید و کہ چنداں ٭ جز کہ حیرانی نباشد کار دیں ٭

۱۔ فائدہ کافِ استفہامیہ ذوی العقول کے لئے آتا ہے مگر اس کی جمع کیاں اور کتاں دونوں آتی ہے۔

۲۔ فائدہ۔ کافِ تفضیلیہ کو بعضوں نے کافِ نفی لکھا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

۷۔ میم۔ اُس کے معنی آٹھ ہیں،

۱۔ ضمیر فاعلی۔ جیسے گفتم۔

۲۔ ضمیر متصل مفعولی۔ ع نمی دانیم از بد اندیش باز۔

۳۔ ضمیر متصل اضافی۔ جیسے دلم۔ اسپم۔ پایم۔

۴۔ بمعنی خود ٭ سخنم بچشم عالمیاں خوب منظر است ٭ وز خبث باطنم سر خجلت نہادہ پیش ٭

فائدہ۔ یہ میم فی الحقیقت ضمیر متصل اضافی ہے ٭

۵۔ بمعنی ہستم۔ ع۔ فقیرم بجبرم گناہم مگیر ٭

۶۔ تعین محل عدد۔ جیسے یکم۔ دوم۔ سوم۔

۷۔ واسطے تانیث کے۔ جیسے خانم۔ بیگم۔

۸۔ نون

نون۔ اوّل کلمہ میں نفی کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے نگفت۔ نگوید۔ اور کبھی اُس کے آخر ہائے مختفی۔ یا یائے مجہول۔ یا الف زیادہ کرکے نہ۔ نے۔ نا کہتے ہیں۔ اور کلام میں مکرر لانے سے فائدہ اثبات کا دیتا ہے ٭ نہ بر دند بیش مہات کس ٭ کہ مقصود حاصل نشد نفس درکس ٭ اور آخر میں نسبت کے لیے آتا ہے۔ جیسے انجمن۔ درزن۔ اور کبھی زائد۔ جیسے یاداشن ٭

۹۔ واو

واو تین قسم کا ہوتا ہے۔ معروف۔ مجہول۔ معدولہ۔ معروف وہ کہ جس کے

۱۔ فائدہ۔ اس میم کا ماقبل مضموم ہوتا ہے مگر دوم کا ماقبل کبھی مفتوح بھی آتا ہے

۲۔ فائدہ۔ اہل زبان کے یہاں واو معروف و مجہول کا تلفظ یکساں ہے اسی وجہ سے ایک کا قافیہ دوسرے سے جائز جانتے ہیں سعدی ع چو اں تا رساند سیاہی نبوز ٭ بر دبیر سکیں سیاہی بگور ٭

Scanned by CamScanner

ماقبل ضمہ کھینچ کر پڑھا جائے۔ جیسے نور۔ مجہول وہ کہ جس کے ماقبل کا ضمہ کھینچ کر نہ پڑھا جائے۔ جیسے گور۔ معدولہ وہ کہ پڑھنے میں نہ آوے۔ جیسے خود۔ خواب۔

واو چند فائدے کے لیئے آتا ہے

۱۔عطف۔ جیسے زید و عمر آمدند۔ ۲۔تفسیر۔ جیسے زر و طلا۔ داد و انصاف

۳۔حالیہ ؎ مپندار و دلہا بداغ تو ریش + کہ روزے بسیں آیدت خیر پیش +

۴۔ملازمت ع من و موش و ویرانۂ پیرزن +

۵۔تصغیر۔ جیسے پسرو۔ دخترو۔ ۶۔ نسبت۔ جیسے ہندو۔ ریشو۔

۷۔ زائد۔ اسم میں وقت لانے یائے نسبت کے۔ جیسے دہلوی۔ اور کلمہ دوحرفی میں وقت لانے لفظ مند کے۔ جیسے تنومند۔ برومند۔

۱۰۔ ہائے ہوّز

ہ دو قسم پر ہے۔ ملفوظی۔ مختفی۔ ملفوظی وہ کہ جس کی آواز ظاہر ہوتی ہے اور وہ اکثر کلمہ کا جزو ہوتی ہے۔ جیسے کاہ۔ ماہ۔ گواہ۔ گناہ۔ یہ ہ حالت جمع میں بحال رہتی ہے۔ اور حالت تصغیر میں بھی مفتوح ہو کر۔ جیسے گواہاں۔ زرہا۔ زرہک۔ مختفی جو آخر کلمہ میں آتی ہے اور صرف اُس کے ماقبل کا فتحہ ظاہر ہوتا ہے اُس کی دو قسمیں ہیں۔ اصلی۔ وصلی۔ اصلی وہ جو کلمے کے آخر میں ہو۔ اور اس کا جزو ہو اور اُس کے گرنے سے وہ کلمہ مہمل اور بے معنی ہو جاوے۔ جیسے زچہ۔ بچہ۔ سایہ۔ مایہ۔ وصلی وہ کہ کسی فائدے کے واسطے آخر میں زیادہ کرتے ہیں۔

تنبیہ ہائے مختفی خواہ اصلی ہو یا وصلی۔ حالت تصغیر اور الف و نون کی جمع میں اور وقت ملنے یائے مصدری کے کاف سے بدل جاتی ہے۔ اور اضافت میں ہمزہ سے

Scanned by CamScanner

جیسے بچگک۔ زنگک۔ بچگاں۔ زنگاں۔ بندگی۔ خواجگی۔ جامۂ تن۔ جامۂ من۔ اور الف و ۃ کی جمع میں حذف ہو جاتی ہے۔ جیسے جامہ۔ جامہا۔ نامہ۔ نامہا۔

ہائے وصلی چند معنی کے لیے آتی ہے

۱۔ نسبت۔ جیسے پنجہ۔ ماہہ۔ سالہ۔ روزہ۔

۲۔ تشبیہ۔ جیسے پایہ۔ دستہ۔ دندانہ۔ گوشہ۔ زبانہ۔

۳۔ مفعولی۔ جیسے گفتہ۔ رفتہ۔

۴۔ لیاقت۔ جیسے شاہانہ۔

۵۔ تصغیر۔ جیسے غزالہ۔ پسرہ۔ دخترہ۔

۶۔ زائد۔ فعل کے آخر میں۔ جیسے حضرت پیر من چنیں فرمودہ۔ وایں نامۂ ادبمن بخشیدہ۔ اور اسم کے آخر میں جیسے نادرہ۔ ستمگارہ۔ زمانہ۔ زرہ۔ یکسرہ۔

۱۱۔ ی

ی دو قسم پر ہے۔ معروف۔ مجہول۔ معروف جس کے ماقبل کا زیر کھینچ کر پڑھا جائے۔ جیسے سپیدی۔ سیاہی مجہول وہ جس کے ماقبل کا زیر کھینچ کر نہ پڑھا جائے۔ جیسے آمدے (ماضی تمنائی)

یائے معروف چھ معنی کا فائدہ دیتی ہے

۱۔ مصدری۔ اسم صفت کے آخر میں۔ جیسے دلداری۔ دلبری۔ پرستندگی۔

۲۔ خطابی۔ فعل و اسم کے آخر میں۔ جیسے چہ کردی۔ چرا گفتی۔ ہنوز طفلی۔

فائدہ۔ اہل زبان کے یہاں یائے معروف ویائے مجہول کا تلفظ یکساں ہے۔ اسی وجہ سے ایک کا قافیہ دوسرے سے صحیح جانتے ہیں جیسے سعدی: نگیری جہاں دست افتادہ، کہ خود از کرم ہیچش دادہ۔

۳۔ نسبت: جیسے ہندی۔ رومی۔ ایرانی۔ فارسی۔
۴۔ متکلم۔ جیسے مخدومی۔ کرمی۔ ملاذی۔
۵۔ زائد۔ جیسے قربانی۔ فضولی۔ خلاصی۔ حضوری۔
۶۔ لیاقت۔ آخر مصدر میں۔ جیسے دادنی۔ کشتنی۔ خوردنی۔

یائے مجہول پانچ معنی کے لئے مستعمل ہے

۱۔ وحدت۔ اسم نکرہ کے آخر میں۔ جیسے گُلے۔ بُلبلے۔ مردے۔ زنے۔
۲۔ توصیفی۔ اسم نکرہ کے آخر میں جیسے ع قدیے نکو کارہ نیکی پسندہ

۱۔ فائدہ۔ جس اسم کے آخر الف ہو اور اس میں یائے مصدری لگا دیں تو ایک ہمزہ زیادہ کر دیں گے جیسے دانا دانائی۔ گویا گویائی۔

۲۔ فائدہ۔ اگر اسم منسوب کے آخر ہائے مختفی ہو تو کبھی واو سے بدل دیتے ہیں اور کبھی **گاف** سے۔ اور کبھی حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے کردئی۔ قلعگی۔ کوفی۔ بصری۔ اور اگر **الف** ہو تو گر جاوے گا۔ یا **واو** سے دیں گے۔ جیسے بخاری۔ ہروی۔ اور الفاظ عربیہ کے آخر میں جو الف مقصورہ ہو یا ہمزہ ہو تو اُس کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے مصطفوی۔ مرتضوی۔ بیضاوی۔ سماوی جس اسم کے آخر **ی** ہو تو اُس کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے دہلوی۔ کبھی **ی** کے پہلے **الف و نون** زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے نورانی۔ حقانی۔ نفسانی۔ ربّانی۔ وغیرہ۔ اکثر حروف خلاف قیاس حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے بدخشاں سے بدخشی۔ کاشان سے کاشانی وغیرہ۔ مرکبات کی نسبت کریں۔ تو جزو اوّل کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے بعلبک سے بعلی۔ کنیت کی طرف منسوب کریں تو اَب۔ اِبْن۔ اُمّ کے لفظ کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسے ابو حنیفہ سے حنفی۔ ابن زبیر سے زبیری۔

۳۔ فائدہ۔ یائے توصیفی کا استعمال تین طور پر ہوتا ہے۔ اوّل یہ کہ موصوف پہلے صفت پیچھے اور **ی** درمیان صفت و موصوف کے لاویں۔ جیسے طبعے سلیم۔ ذہنے مستقیم۔ دوئم یہ کہ صفت کو پہلے لاویں اور موصوف کا آخر میں **ی** زیادہ کریں مثلاً بدمردے۔ خوب کہنے۔ سوئم یہ کہ صفت پیچھے اور **ی** اُس کے آخر میں لاویں۔ مثلاً مرد خوب کارے۔ خط زشتے۔ طریقۂ اوّل زیادہ فصیح ہے۔ دوسرا تیسرے سے بہتر ہے۔

Scanned by CamScanner

۳۔ تنکیر ؎ چو خدمت گزاریت گردد کہن ✣ حق سالیانش فرامش مکن ✣

۴۔ زائد۔ محض تاکید کے واسطے ع ۔ ہر یکے را بہر کارے ساختند ✣

۵۔ استمراری و تمنائی۔ جیسے گفتے ۔ گفتی (دیکھو بحث فعل ماضی)۔

فائدہ۔ یائے تنکیر کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے ع ۔ گرم دستگیری بجائے رسم ✣ اور کبھی تحقیر کے لیے ع چہ مردی بود کز زنے کم بود ✣

تنبیہ۔ یائے وحدت و یائے توصیفی و یائے تنکیر اگر بعد ہائے مختفی کے آوے تو ہمزہ سے بدل جاتی ہے ؎ یکم روز بر بندۂ دل بسوخت ✣ کہ می گفت و فرماندہش می فروخت ✣

بحث حروف مرکبہ

۱۔ **از**۔ اس حرف کا ہمزہ وقت ملنے کسی کلمے کے گر جاتا ہے۔ جیسے کز۔

از آٹھ معنوں میں مستعمل ہے

۱۔ ابتدائیہ۔ جیسے از ہند تا غرب سیر کردم۔

۲۔ تبعیضیہ۔ مثلاً گلے از بوستاں۔ قطرۂ از عماں۔

۳۔ بیانیہ۔ مثلاً خاتم از طلا۔ زرہ از آہن۔

۴۔ تعلیلیہ۔ جیسے از فقر و فاقہ بجاں آمدہ۔

۵۔ استعانت۔ مثلاً از خنجر بکشت۔

۶۔ استعلا۔ بمعنی بر۔ جیسے فلاں از نفس خود بخیلی می کند۔

۷۔ ظرفیہ بمعنی در ع اویم از جہل رہ دز گردد تمام ✣

۸۔ زائدہ ؎ نہ از بہر آں می ستانم خراج ✣ کہ زینت کنم بر خود و تخت و تاج ✣

فائدہ۔ از ابتدائیہ کا حذف بھی جائز ہے۔ مثلاً صبح تا شام مصروف بکار بودم۔

Scanned by CamScanner

۲۔ با۔ چند معنی کے لیے مستعمل ہے

۱۔ معیّت۔ جیسے ع فرستاد با او بسے مال و گنج ✦

۲۔ ظرفیت ع دریں گیر د نیاز و ناز ما با حسن دوست ✦

۳۔ معاوضہ ع فرہاد کوہِ غم را با جاں ہمی فروشد ✦

۴۔ مقابلہ ع با روئے تو آفتاب ہیچ است ✦

۵۔ باوجود ع۔ چو ماہی کہ با جوشن افتد بہ شست ✦

۳۔ تا۔ چند معنوں میں مستعمل ہے

۱۔ ابتدا ؎ نگر تا گلستانِ معنی شگفت ✦ بروہیچ بلبل چنیں خوش نگفت ✦

۲۔ انتہا۔ ع کہ شنعت بروتا قیامت بماند ✦

۳۔ شرطیہ ؎ با یام تا بر نیاید بسے ✦ نشاید رسیدن بغورِ کسے ✦

۴۔ تعلیلیہ ع بیا تا دریں شیوہ چالش کنیم ✦

۵۔ واسطے تاکید کے بمعنی ہرگز و البتہ ع اَلا تا نداری ز کشتنش باک ✦

۶۔ بمعنی عدد۔ جیسے ہفتا دتا۔

۴۔ را۔ پانچ فائدے کے لئے آتا ہے

۱۔ علامت مفعول۔ جیسے زید را زدم۔

۲۔ علامت اضافت ؎ مرا چوں بود دامن از جرم پاک ✦ نیاید ز خبث بداندیش باک ✦

۳۔ بمعنی برائے۔ جیسے خدارا۔

۴۔ بمعنی از۔ جیسے ؎ قضارا من و پیرے از فاریاب ✦ رسیدیم در خاکِ مغرب بر آب ✦

۵۔ زائد۔ بعد از و برائے وغیرہ کے ع یکے از دوستانِ مخلص را ✦

۵۔ **حروفِ جارّہ** وہ ہیں کہ معنی فعل کو اسم تک پہونچاتے ہیں۔ جس اسم پر وہ داخل ہوتے ہیں اُس کو **مجرور** کہتے ہیں وہ گیارہ ہیں۔ اَز۔ بَا۔ بَ۔ تَا۔ برائے۔ بہرِ۔ بے۔ دَر۔ اندر۔ بر۔ را بمعنی برائے۔ جیسے بخانہ درآمدم۔ براسپ سوار شدم۔ وغیرہ۔

۶۔ **حرفِ عطف** وہ ہیں کہ دو کلموں یا دو جملوں کو ایک حکم میں شامل کرتے ہیں حروفِ عطف سے پہلے کو **معطوف علیہ** اور پیچھے کو **معطوف** کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ و۔ نہ۔ پس۔ سپس۔ دگر۔ دیگر۔ ہم۔ نیز۔ کاف بمعنی واو۔ علاوہ ان کے اگرچہ۔ ارچہ۔ باوجود۔ ہرچند۔ بھی اتصال اور عطف کا فائدہ دیتے ہیں۔

۷۔ **حروفِ تردید** (یہ بھی حروفِ عطف ہیں) وہ ہیں جن کے آنے سے معطوف علیہ اور معطوف میں سے ایک غیر معین مُراد ہو وہ چار ہیں۔ یا۔ خواہ۔ اگر۔ کاف بمعنی یا۔ جیسے زید آمد یا عمرو۔ سبق بخواں۔ خواہ کتاب بنویس۔

۸۔ **بل و بلکہ و کاف** بمعنی بلکہ یہ بھی حروف عطف ہیں کبھی اضراب کا فائدہ دیتے ہیں یعنی ایک حکم سے اعراض و انکار کرکے دوسرے کی طرف انتقال کرنا اور کبھی ترقی کا اضراب غیر جنسوں میں ہوتا ہے۔ اور ترقی دو ہمجنسوں میں مثال اوّل ۵ نہ سگ دامن کاروانی درید

فائدہ ۔ معطوف علیہ کبھی اسم ہوتے ہیں کبھی فعل کبھی جملہ۔ جیسے احمد و محمود آمدند۔ احمد آمد و رفت۔ احمد آمد و محمود رفت

۱۔ **توضیح** ۔ واو چیزوں کے اجتماع کے لیئے آتا ہے۔ پس۔ سپس۔ دیگر۔ دگر۔ اکثر ترتیب کے لیئے آتے ہیں نیز و ہم معمول کے لیئے۔ ہم کے لیئے تکرار ضرور ہے۔ مثلاً احمد و محمود آمدند۔ احمد آمد پس محمود۔ زید آمد نیز محمود۔ ہم احمد آمد ہم محمود۔

۲۔ **توضیح** ۔ یا اکثر دو میں سے ایک امر کے ہونے کو منع کرتا ہے۔ اور کبھی اُس کے بعد ایک اور جملہ آتا ہے کبھی شک کے موقع پر لاتے ہیں خواہ دو جملوں پر او رمکرر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی ضرور ہوتا ہے مقدم ہو یا موخر۔ اگر بمعنی خواہ آتا ہے مثلاً احمد آید یا نہ آید من می زدم ۵ اگر ہوشمند است وگر بے خرد ۔ غم او مخور کو غم خود خورد

کہ دہقان نادان کہ سگ پرورید ❊ مثالِ دُوم ع نہ دل دامن دلستاں می کشد ❊
کہ مہرش گریباں جاں می کشد ❊

۹ حروفِ شرطیہ۔ اگر۔ گر۔ وگر۔ ار۔ ور۔ ہرگاہ۔ ہرگہ۔ چوں۔ چو۔ یہ حروف دو جملوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اوّل کو شرط۔ دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔

۱۰ حروفِ علت۔ چہ۔ کہ۔ زیراکہ۔ زیراچہ۔ چراکہ۔ لہذا۔ ار۔ حروف علت ہیں مثلاً بیروں نمی روم کہ آفتاب گرم است جملۂ اوّل معلول اور جملۂ ثانی علت ہے۔

۱۱ حروفِ استثنا۔ الا۔ مگر۔ غیر۔ سوائے۔ جز۔ ودن۔ ورائے۔ ماورائے۔ ماسوائے حروف استثنا ہیں۔

استثنا جماعت میں سے ایک چیز کے نکالنے کو کہتے ہیں۔ جس سے کوئی چیز نکالی جاوے اُس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ اور جو چیز نکالی جاوے اُس کو مستثنیٰ۔ استثنا کی دو قسمیں ہیں۔

توضیح۔ ار۔ اگر کا مخفف ہے۔ ور۔ وگر۔ کا یہ پانچوں معاملۂ مشکوک پر آتے ہیں۔ اور چو۔ چوں۔ امور یقینی پر۔ جیسے اگر حقتی مردی ع نماند کسے چوں سکندر نماند ❊

۱۔ فائدہ۔ شرط کے لیئے زمانۂ استقبال لازم ہے۔ لہذا شرط و جزا سے کوئی صیغہ ماضی ہو تو وہ بھی بمعنی مستقبل ہو جائے گا۔ جب ماضی تمنائی پر حرف شرط آتا ہے تو مثبت کو منفی اور منفی کو مثبت کر دیتا ہے۔ جیسے ع
گر بہ سخن کار میسر شدے ❊ کار نظامی بہ فلک بر شدے ❊

۲۔ فائدہ۔ اکثر معلول مقدم اور علت موخر آتی ہے۔ جیسا کہ کتاب کی مثال سے ظاہر ہے۔ کبھی اس کے برعکس۔ جیسے موسمِ تابستاں بود ازیں سبب در سفر تامل کردم۔

۳۔ فائدہ۔ الا۔ جز مضاف نہیں ہوتے کیونکہ حرف ہیں باقی اور ہوتے ہیں۔ مستثنیٰ۔ مستثنیٰ منہ سے مقدم آتا ہے مثلاً جز شما ہمہ بودند۔ اور مستثنیٰ منہ کبھی مذکور ہوتا ہے کبھی محذوف مثلاً ع حیف باشد کہ جز نکو گوید۔

متصل۔ جس میں مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ ایک ہی جنس سے ہوں۔ جیسے فوج آمد مگر سپہ سالار۔ **منقطع** جس میں دونوں ایک جنس کے نہ ہوں۔ جیسے بادشاہ خلعت بخشید مگر جاگیر۔

۱۲۔ حرفِ استدراک۔ لاکن حرف استدراک ہے۔ یعنی اُس سے کلام سابق کا شبہ اُٹھ جاتا ہے۔ اُسی سے لیکن، لیک۔ اور ولیکن۔ ولیک۔ ولے۔ بنے ہیں۔ یہ سب بھی بمعنی لاکن آتے ہیں۔ جیسے زید از سفر حجاز باز آمد لیکن اسبابش ہنوز نہ رسید۔

۱۳۔ حروفِ ندا۔ اے۔ یا۔ اسم کے اوّل میں آتے ہیں اور الف آخر میں جیسے اے زید بیا۔ یہ حروف جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اُس کو منادیٰ کہتے ہیں۔ اُس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جس کو جواب ندا کہتے ہیں۔

۱۴۔ حروفِ ندبہ۔ جو اظہارِ حسرت و افسوس و غم کے لئے آتے ہیں۔ وہ الف ہے آخر اسم میں اور وا اوّل میں۔ جیسے دریغا۔ حسرتا۔ وازیدا۔ وامصیبتا۔

توضیح اے نظم و نثر دونوں میں آتا ہے ع تو انم من اے نامور شہریار + یا وآیا منادے کے اوّل میں عربی و فارسی دونوں میں آتے ہیں۔ الف اسما والقاب وغیرہ کے آخر میں آتا ہے۔ مثلاً سعدیا۔ حافظا۔

۱۔ فائدہ۔ حرفِ ندا معرفہ پر آتا ہے۔ یا ایسے نکرہ پر کہ جب کوئی اُس سے پکارے وہ سمجھ جائے کہ متکلم مجھے پکارتا ہے۔ مثلاً اے درویش باز گرد کہ بہ سختی بمیری۔

۲۔ فائدہ۔ کبھی ایسی چیزوں کو منادیٰ کرتے ہیں جو قابل ندا نہیں۔ جیسے صبا۔ نسیم۔ دل۔ نفس وغیرہ ع اے دل بکام خویش جہاں را تو دیدہ گیر ع اے نفس اگر بدیدۂ تحقیق بنگری + کبھی منادیٰ محذوف ہوتا ہے۔ ع۔ اے در بقائے عمر تو خیرِ جہانیاں + یعنی اے ممدوح۔ بول چال میں اکثر حرفِ ندا کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے جناب اُستاد چہ می فرمایند۔ اکثر نظم وغیرہ میں حرفِ ندا محذوف ہوتا ہے ع سعدی تو نیز زیں قفس تنگ نائے دہر + یعنی اے سعدی۔

۱۵۔ حروفِ استفہام۔ آیا۔ ہر قسم کے استفہام کے لئے۔ اور ہر چیز کے لئے۔ چہ۔ چیست۔ کدام۔ کدامیں۔ اور ہر شخص کے لئے۔ کہ۔ کیست۔ چہ کس۔ کدام کدامیں۔ اور مکان کے لئے۔ کجا۔ کو۔ اور زمان کے لئے۔ کے۔ اور کیفیت حال کے لئے۔ چوں۔ چگونہ چساں۔ اور سبب کے لئے چوں۔ چرا۔ اور عدد کے لئے۔ چند۔ جیسے آیا زید آمدہ است در دست چہ داری۔ کدامیں جامہ دریدی۔ چہ کسی۔ کجا رفتی۔ کے آمدی۔ ایں کار چساں (چگونہ) کنم۔ چند درم بدست داری۔

۱۶۔ حروفِ اتصاف۔ ناک۔ گیں۔ آگیں ہے۔ جیسے دردناک۔ غمگیں۔ مشک آگیں۔

۱۷۔ حرفِ فاعلیت۔ گر۔ گار۔ آں۔ آر ہے۔ اسم یا فعل کے آخر میں۔ جیسے زرگر۔ ستمگار۔ باراں۔ پرستار۔

۱۸۔ حروفِ خداوندی۔ مند۔ ور ہے۔ جیسے دردمند۔ سخنور۔ دادور۔

۱۹۔ حرفِ محافظت۔ بان ہے اسم کے آخر میں جیسے فیلبان۔ دربان۔ جہربان۔ باغبان۔ ساربان۔ ترکی کا حرفِ محافظت چی بھی فارسی میں مستعمل ہے۔ مثلاً خزانچی۔ مشعلچی۔

۲۰۔ کلمات بمعنی رنگ۔ وام۔ فام۔ گوں۔ گونہ۔ ہے اسم کے آخر میں۔ جیسے سیہ فام۔ میگوں۔ گلگونہ۔

۱۔ **فائدہ**۔ چند دو قسم کا ہے۔ استفہامیہ۔ خبریہ۔ استفہامیہ عدد کے استفہام کے لئے آتا ہے۔ جیسے ترا انشاہرہ چنداست خبریہ مثل چندیں۔ چندانے کہ بمعنی کثرت آتا ہے۔ بمثل "ناچار بخلاف رائے مرتی قدمے چند برفتمے"۔ چندیں روزگار کجا بودی "چندانے ازیں مالیخولیا فرو گفت"۔ چند کبھی تعداد کے اجمال کے لئے آتا ہے۔ مگر نون کے اندر اس وقت اس کو اسم کنایہ کہتے ہیں۔ ؎ من وچند سالوک صحرانورد ÷ برفتیم قاصد بدیدار مرد ÷

۲۔ **فائدہ**۔ کبھی واو کے واو کو ساکن اور ماقبل کو متحرک کر دیتے ہیں۔ جیسے گنجور۔ مزدور۔ رنجور۔

Scanned by CamScanner

۲۱۔ **شرکت کے لیئے** ۔ ہم ۔ جیسے ہمسبق ۔ ہمرکاب ۔ ترکی کا حرف شرکت (تاش) بھی فارسی میں آتا ہے۔ جیسے ع من وتو ہر دو خواجہ تاشانیم ٭

۲۲۔ **حروف تنبیہ** ۔ اَلا ۔ ہان ۔ ہین جملے کے پیشتر آتے ہیں ۔ مثلاً الا تا بغفلت نخسپی کہ نوم ٭ حرام ست بر چشم سالارِ قوم ٭

۲۳۔ **لیاقت کے لیئے** ۔ وار ۔ گان ۔ ویائے معروف ہے ۔ جیسے شاہوار ۔ خروار ۔ شایگان ۔ رایگان ۔ دادنی ۔ کشتنی ۔

۲۴۔ **تحسین کے لیئے** ۔ زہ ۔ زہے ۔ خہ ۔ خہے ۔ مرحبا ۔ حبذا ۔ شاباش ۔ واہ وا ۔ مستعمل ہیں ۔ ع زہے ملک و دولت بروے تو باز ٭

۲۵۔ **تعجب کے لیئے** بخ ۔ بخا ۔ اللہ اللہ ۔ سبحان اللہ ع اللہ اللہ چہ جائے ایں سخن است ٭

۲۶۔ **تمنا کے لیئے** ۔ کاش ۔ کاشکے ۔ (دیکھو بحث ماضی تمنائی)

۲۷۔ **ایجاب کے لیئے** ۔ آرے ۔ بلے ۔

۲۸۔ **نفی کے لیئے** ۔ بے ۔ نے ۔ نہ ۔ نا ۔

توضیح ۔ شاباش اصل میں شاد باش تھا (حقا شاباش عجب کار کردی)

۱۔ **فائدہ** ۔ عربی کا حرف ایجاب نعم بھی فارسی میں مستعمل ہے ۔ اور ہاں ہندی کا بھی فارسی میں آجاتا ہے جیسے ؎ چو گفتم مرا می کشی اے صنم ٭ بلے گفت ہاں گفت آرے نعم ٭

۲۔ **فائدہ** ۔ بے ہمیشہ اسم پر آتا ہے کبھی نفی کا فائدہ دیتا ہے ۔ کبھی اُس اسم کو اسم صفت بنا دیتا ہے ۔ مثلاً بے مہمان طعام نمی خورم ۔ احمد بے شعور است ۔ نے جملے پر آتا ہے ع نے تاب وصل دارم نے طاقت جدائی نہ فعل پر آتا ہے نا ۔ اکثر صفت کی نفی کرتا ہے ۔ مثلاً نابالغ ۔

۳۔ **فائدہ** ۔ بے اور نا میں یہ فرق ہے کہ بے اکثر اسم ذات پر آتا ہے ۔ جیسے بے علم ۔ بے شعور وغیرہ اور نا اسم صفت پر ۔ مثلاً نابالغ وغیرہ ۔ بہت سی لفظیں اس قاعدے کے خلاف بھی مستعمل ہیں جیسے نا امید ۔ نامراد ۔ ناکام وغیرہ ۔

Scanned by CamScanner

۲۹۔ کلماتِ ظرفیت۔ لاخ۔ زار۔ سار۔ ستان۔ دان۔ کدہ۔ بار۔ وند۔ گاہ۔ اسم کے آخر میں آتے ہیں۔ اُن میں سے اوّل کے تین فائدہ کثرت کا بھی دیتے ہیں۔ جیسے سنگلاخ۔ گلزار۔ شاخسار۔ کوہسار۔ گلستاں۔ زمستاں۔ نمکداں۔ بُت کدہ۔ زنگبار۔ آوند۔ بارگاہ۔ (آوند اصل میں آب وند تھا)

۳۰۔ کلماتِ تشبیہ۔ چو۔ ہمچو۔ ہمچناں۔ ہمچنیں۔ چنانچہ۔ مثل۔ مانند۔ وار۔ آسا۔ مان۔ آنہ۔ ساں۔ وان۔ ویس۔ وش۔ فش۔ وند۔ آوند۔ یہ ۱۸ مختلف کلمات تشبیہ ہیں۔ جیسے خواجہ وار۔ شیر آسا۔ مہمان۔ آسمان۔ دلیرانہ۔ کعبہ ساں۔ برگستواں۔ حور ویس۔ ماہ وش۔ ماہ فش۔ خداوند۔ خویشاوند۔ پایہ ودستہ۔

تشبیہ۔ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ مشابہت دینا و مانند کرنا۔ اُس کے لئے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مُشَبَّہ جس کو مُشابہت دیتے ہیں۔ دوُم۔ مُشَبَّہ بہ جس کے ساتھ مشابہت دی جاتی ہے۔ سُوم **وجہ شبہ** یعنی وہ معنیٔ مشترک جس وجہ سے مشابہت دیتے ہیں۔ چہارُم **حرف تشبیہ**۔ جیسے رویش ہمچو ماہ است میں رُو مشبہ۔ اور ماہ مشبہ بہ ہے۔ اور ہمچو حرف تشبیہ اور اُس کی درخشندگی و حُسن وجہ شبہ۔

۳۱۔ حرف نسبت۔ ین۔ ینہ۔ ہ۔ یائے معروف۔ گان۔ آنہ۔ نون۔ ان۔ شن۔ اک۔ ویہ حرف نسبت ہیں۔ جیسے سیمیں و زریں۔ دیرینہ و دوشنبہ۔ پنجہ و دستہ۔ ترکی و وردی۔ دوگاں۔ سالانہ و کاشانہ۔ انجمن۔ ایران و توراں۔ جوشن و گلشن۔ مغاک و پوشاک۔ سیبویہ۔

---

۵۷ سعدی ع چہ قدر آورد بندۂ حور ویس

خاتمہ در معانی مصادر و طرق استعمال آنہا مشتمل بر دو فصل

فصل اوّل در بیان معانی مصادر

تنبیہ۔ جن مصادر کے آخر یدن ہے وہ دو طرح پر ہیں۔ اوّل یہ کہ اُس کی اصل وضع میں یدن واقع ہو۔ جیسے پریدن۔ رسیدن۔ خریدن۔ اُس کو مصدر اصلی کہتے ہیں۔ دوّم یہ کہ مصدر اصلی کے صیغۂ امر سے باضافۂ یدن بنالیا ہو اُس کو مصدر فرعی کہتے ہیں۔ جیسے دوختن کے صیغۂ امر۔ دوز سے دوزیدن۔ آمیختن کے صیغۂ امر آمیز سے آمیزیدن وغیرہ۔ جو معنی مصدر اصلی کے ہوتے ہیں وہی فرعی کے۔ اور صیغۂ مضارع وامر ونہی واسم فاعل وصیغۂ حالیہ بھی دونوں مصدروں کے یکساں ہوتے ہیں۔ جیسے دوختن و دوزیدن سے دوز۔ بدوز۔ مدوز۔ دوزندہ۔ دوزاں۔ البتہ ماضی ومستقبل واسم مفعول دونوں کے مختلف آتے ہیں۔ جیسے دوختن سے دوخت۔ خواہد دوخت۔ دوختہ۔ اور دوزیدن سے دوزید۔ خواہد دوزید۔ دوزیدہ۔

فائدہ: مصدر باعتبار اپنے فعل کے لازمی ومتعدّی ومعروف ومجہول کہلاتا ہے اُن کی تعریف آغاز رسالہ میں بیان ہوئی جس وقت چاہیں کہ لازمی کو متعدی یا متعدی یک مفعول کو متعدّی بدو مفعول بنادیں تو صیغۂ امر کے آخر میں **انیدن** زیادہ کریں گے جیسے پریدن سے پرانیدن۔ فرمودن سے فرمانیدن۔ دریدن سے درانیدن۔

فائدہ۔ مصدر مجہول اکثر اسم مفعول پر شدن بڑھانے سے بن جاتا ہے۔ جیسے گفتہ شدن۔ کشتہ شدن۔ اور کبھی خود مصدر معروف مجہول کا فائدہ دیتا ہے جیسے ؎
بجاں بردِ خود دہر کسے گشت شاد ٭ کس از کشتنِ کس نیاورد یاد ٭ اے کشتہ شدن کس

الف

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
آختن		تلوار کھینچنا		مقتضب ہے[1]	
آراستن	آرائیدن	سنوارنا	آرائش	آراید	
آرامیدن[2]		آرام کرنا۔ آرام دینا	آرام۔ آرامش	آرامد	
ارزیدن		لائق ہونا۔ بکنا	ارزش	ارزد	
آزردن آزاردن	آزاریدن	آزردہ کرنا آزردہ ہونا	آزار۔ آزردگی	آزارد	
آزمودن	آزمائیدن	آزمانا	آزمائش	آزماید	
استادن		کھڑا ہونا۔ ٹھہرنا	استادگی	اِستد	
آسودن	آسائیدن	آرام پانا۔	آسائش۔ آسودگی	آساید	
آشامیدن		پینا	آشام	آشامد	
آشفتن	آشوبیدن	پریشان کرنا پریشان ہونا فریفتہ ہونا	آشوب آشفتگی	آشوبد	
آغازیدن		شروع ہونا	آغاز	آغازد	
آغشتن		آلودہ ہونا		مقتضب ہے	

[1] یعنی مضارع وامر ونہی واسم فاعل نہیں آتے۔

[2] آرامیدن اور اس کے مشتقات بہ تخفیف الف بھی مستعمل ہیں یعنی آرمیدن وغیرہ۔

فائدہ۔ باب الالف کے اکثر مصادر بحذف الف بھی مستعمل ہیں مثلاً فتادن۔ فشردن۔

Scanned by CamScanner

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
افتادن		گر پڑنا	افتاد	افتد	
افراختن	افرازیدن	بلند کرنا	افرازش۔ افراز	افرازد	
افراشتن		بلند کرنا		افرازد	
افروختن	افروزیدن	روشن کرنا	افروزش	افروزد	افروزانیدن
آفریدن		پیدا کرنا	آفرینش	آفریند	
افزودن	افزائیدن	زیادہ ہونا۔ زیادہ کرنا	افزایش۔ افزود	افزاید	
افسردن		ٹھٹھرنا	افسردگی	افسرد	
افشاندن		جھاڑنا	افشاں	افشاند	
افشردن افشاردن		نچوڑنا	افشار	افشارد	افشارانیدن
افگندن		ڈالنا	افگندگی	افگند	
آگندن		بھرنا	آگندگی	متعذر ہے	
آلودن	آلائیدن	آلودہ ہونا۔ آلودہ کرنا	آلایش	آلاید	
آماسیدن		سوجنا	آماس	آماسد	
آمدن		آنا	آمد	آید	
آمرزیدن		بخشنا	آمرزش	آمرزد	آمرزانیدن
آموختن	آموزیدن	سیکھنا۔ سکھانا	آموزش	آموزد	آموزانیدن
آمودن	آمائیدن۔ آمادن	بھرنا	آمایش	آماید	

Scanned by CamScanner

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
آمیختن	آمیزیدن	ملنا۔ ملانا	آمیزش	آمیزد	
انباشتن[51]	انباریدن	پاٹنا۔ ڈھیر کرنا	انبار	انبارد	
انجامیدن		تمام ہونا	انجام	انجامد	
انداختن	اندازیدن	ڈالنا	انداز۔ اندازہ	اندازد	
اندوختن	اندوزیدن	جمع کرنا	اندوزش	اندوزد	اندوزانیدن
اندودن	اندائیدن	لیپنا۔ ملمع کرنا		انداید	
اندیشیدن		سوچنا	اندیشہ	اندیشد	
انگاشتن[52]	انگاریدن۔ انگاردن	معلوم کرنا	انگار	انگارد	
انگیختن	انگیزیدن	اٹھانا	انگیز۔ انگیزش	انگیزد	انگیزانیدن
آوردن		لانا	آورد	آورد	
آویختن	آویزیدن	لٹکنا۔ لٹکانا	آویزش۔ آویزہ	آویزد	آویزانیدن
آہیختن		لٹکنا۔ تلوار کھینچنا		مقتضب ہے	
			ب		
باختن	بازیدن	ہارنا۔ کھیلنا	باخت۔ بازی	بازد	
باریدن		برسنا۔ برسانا	بارش۔ باریدگی	بارد	
بافتن	بافیدن	بننا	بافت	بافد	

۵۱ انباشتن بائے موحدہ و بائے فارسی دونوں سے آتا ہے۔

۵۲ انکاشتن کو کاف فارسی سے پڑھنا غلط ہے۔

Scanned by CamScanner

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
بالیدن		جسم کا بڑھنا۔ زیادہ ہونا	بالش۔ بالیدگی	بالد	
بایستن		چاہنا	بایست	باید	
بخشودن	بخشائیدن	بخشنا	بخشائش	بخشاید	
بخشیدن		بخشنا	بخشش	بخشد	
بُردن		لے جانا	بُرد	بَرَد	
بِرِشتن		بھوننا	بِرِشت	بِرِید	بریانیدن
بُریدن		کاٹنا	بُرش۔ بُرید	بُرَد	
بَستن		باندھنا۔ بند کرنا	بندش، بندوبست	بندد	
بُودن		ہونا۔ رہنا	بود۔ باش	باشد۔ بُوَد	
بوسیدن		چومنا	بوسہ	بوسد	
بیختن		چھاننا	بیزش	بیزد	بیزانیدن
بوئیدن		سونگھنا	بوئے	بوید	بویانیدن
		پ			
پاشیدن		چھڑکنا	پاشش	پاشد	
پالودن	پالائیدن	صاف کرنا	پالائش	پالاید	
پائیدن		ٹھہرنا	پائندگی	پاید	
پختن	پزیدن	پکنا۔ پکانا	پخت۔ پز	پزد	
پذیرفتن		قبول کرنا	پذیرائی	پذیرد	

Scanned by CamScanner

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
پرداختن	پردازیدن	خالی کرنا. مشغول ہونا. سنوارنا	پرداخت	پردازد	
پرستیدن		پوجنا	پرستش	پرستد	
پُرسیدن		پوچھنا	پُرسش	پُرسد	
پروردن		پالنا	پرورش	پرورد	پرورانیدن
پرہیزیدن		پرہیز کرنا	پرہیز	پرہیزد	
پریدن[1]		اُڑنا		پَرَد	پرانیدن
پژمردن	پژمریدن	کمھلانا	پژمردگی	پژمرد	
پژوہیدن		فکر کرنا	پژوہش	پژوہد	
پسندیدن		پسند کرنا	پسند	پسندد	
پنداشتن	پنداریدن	معلوم کرنا	پندار، پنداشت	پندارد	
پوسیدن[2]		کہنہ ہونا کپڑے وغیرہ کا	پوسیدگی	پوسد	
پوشیدن		پہننا. چھپانا	پوشش، پوشاک	پوشد	پوشانیدن
پوئیدن		دوڑنا	پویہ	پوید	پویانیدن
پیچیدن		لپٹنا. لپیٹنا	پیچ، پیچش	پیچد	پیچانیدن
پیراستن	پیرائیدن	سنوارنا	پیرائش	پیراید	
پیمودن	پیمائیدن	ناپنا	پیمائش	پیماید	
پیوستن	پیوندیدن	ملنا. ملانا	پیوند	پیوندد	

[1] پریدن مشتق پاریدن ہے [2] پوسیدن اصل میں بائے فارسی ہے۔ بائے موحدہ سے پڑھنا نہ چاہیے۔

Scanned by CamScanner

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
		ت			
تاختن	تازیدن	دوڑنا۔ دوڑانا	تاخت۔ تاز	تازد	
تافتن [1]	تابیدن	چمکنا۔ گرم ہونا۔ بٹنا	تاب۔ تابش	تابد	
تراشیدن		کاٹنا۔ چھیلنا	تراش	تراشد	
تراویدن [2]		ٹپکنا	تراوش	تراود	
ترسیدن		ڈرنا	ترس	ترسد	ترسانیدن
ترکیدن [3]		شق ہونا		ترکد	
تفتیدن		گرم ہونا		تفتد	
تفسیدن		گرم ہونا		تفسد	
تنیدن		تننا	تنش	تند	
توانستن		طاقت رکھنا۔ ممکن ہونا	توانائی	تواند	
توختن	توزیدن	جمع کرنا	توز	توزد	
		ج			
جستن	جوئیدن	ڈھونڈھنا	جستجو	جوید	جویانیدن
جستن	جہیدن	کودنا	جست	جہد	جہانیدن
جنبیدن		ہلنا	جنبش	جنبد	جنبانیدن

[1] تفتن بتافتن کا مخفف ہے۔ [2] تراویدن بائے موحدہ سے بھی آیا ہے یعنی ترابیدن۔

[3] ترکیدن قاف سے بھی آتا ہے یعنی ترقیدن۔

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
جوشیدن		اُبلنا	جوش۔ جوشش	جوشد	جوشانیدن
		چ			
چربیدن		غالب ہونا	چرب	چربد	
چریدن		چرنا	چرا۔ چرش	چرد	چرانیدن
چسپیدن		لپٹنا	چسپیدگی۔ چسپ	چسپد	چسپانیدن
چشیدن		چکھنا	چاشنی	چشد	چشانیدن
چکیدن		ٹپکنا	چکش۔ چکیدگی	چکد	چکانیدن
چمیدن		ٹہلنا۔ لچکنا۔ جھکنا	چم۔ چمیدگی	چمد	چمانیدن
چیدن		چُننا	چین	چیند	
		خ			
خاریدن		کھجلانا	خارش	خارد	
خاستن	خیزیدن	اُٹھنا	خیز	خیزد	
خائیدن		چبانا	خاید	خاید	خایانیدن
خراشیدن		چھیلنا	خراش	خراشد	
خرامیدن		ٹہلنا۔ لچکنا۔ جھکنا	خرام۔ خرامش	خرامد	
خروشیدن		شور کرنا	خروش	خروشد	خروشانیدن
خریدن		مول لینا	خرید	خرد	
خزیدن		گھسنا	خزش	خزد	

Scanned by CamScanner

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
خستن		زخمی ہونا۔ زخمی کرنا	خستگی	مقتضب ہے	
خفتن	خسپیدن	سونا	خفت	خسپد	خسپانیدن
خلیدن		چبھنا	خلش	خلد	خلانیدن
خموشیدن[۵۱]		چپ رہنا	خموشی	خموشد	خموشانیدن
خمیدن		جھکنا	خم۔ خمیدگی	خمد	خمانیدن
خندیدن		ہنسنا	خندہ۔ خند	خندد	خندانیدن
خوابیدن		سونا	خواب	خوابد	خوابانیدن
خواستن	خواہیدن	چاہنا	خواہش۔ خواست	خواہد	
خواندن		پڑھنا۔ بلانا	خواند	خوانَد	
خوردن		کھانا	خورد۔ خورش خور۔ خوراک	خورَد	خورانیدن
خوشیدن		سوکھنا		خوشد	
خیسیدن		تر ہونا		خیسد	خیسانیدن
			د		
دادن		دینا	داد۔ دہش	دہد	دہانیدن
داشتن	داریدن	رکھنا	داشت	دارد	
دانستن		جاننا	دانش۔ دانائی	دانَد	
درخشیدن		چمکنا	درخش	درخشد	درخشانیدن

۵۱ خاموشیدن بزیادت الف بھی آتا ہے ۱۲

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
درودن		کاٹنا	درود	دِرَوَد	
دریدن		پھاڑنا	درِش	دَرَد	درانیدن
دزدیدن		چورانا	دُزدی	دُزدد	
دمیدن		پھونکنا۔ اوگنا	دَم۔ دمیدگی	دَمد	دمانیدن
دوختن	دوزیدن	سینا	دوخت۔ دوز	دوزد	دوزانیدن
دوشیدن		دوہنا	دوشش	دوشد	دوشانیدن
دویدن		دوڑنا	دَوا دوِش	دَوَد	دوانیدن
دیدن		دیکھنا	دید بینش بینائی	بیند	
		ر			
راندن		ہانکنا		رانَد	
ربودن	ربائیدن	اوچک لے جانا	ربودگی، ربایش	رُباید	
رخشیدن		چمکنا	رخش	رخشد	رخشانیدن
رزیدن		رنگنا		رزَد	
رُستن	روئیدن	اوگنا	روئیدگی	روید	
رَستن	رہیدن	چھوٹنا	رہائی	رہَد	رہانیدن
رسیدن		پہونچنا	رسائی۔ رسید	رسَد	رسانیدن
رشتن		کاتنا	•	مقتضب ہے	
رفتن		جانا۔ چلنا	روش۔ رفتار	روَد	

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
رُفتن	روبیدن	جھاڑو دینا	رُوب	رُوبَد	رُوبانیدن
رمیدن		بھاگنا	رَم۔ رمیدگی	رَمَد	رمانیدن
رنجیدن		آزردہ ہونا	رنج۔ رنجش	رنجد	رنجانیدن
ریختن	ریزیدن	گرانا۔ گرنا۔ ٹپکنا۔ ٹپکانا	ریزش	ریزد	
ریسیدن		کاتنا	ریسش	ریسد	
			ز		
زادن	زائیدن	جننا	زائیدگی	زاید	
زاریدن		رونا	زاری۔ زارش	زارد	
زدن		مارنا	زد	زند	
زدودن	زدائیدن	صیقل کرنا	زدائش	زداید	
زیستن		جینا	زیست۔ زندگی	زید	
			ژ		
ژولیدن		پریشان ہونا۔ پریشان کرنا	ژولیدگی	ژولد	
			س		
ساختن		بنانا۔ موافقت کرنا	ساخت۔ سازش	سازد	
سائیدن		پیسنا	سائیدگی	ساید	
سپردن		سونپنا	سپارش[1]	سپارد	

۱؎ سپارش فتح سے بھی مستعمل ہے یعنی سفارش۔

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
سپوختن	سپوزیدن	چبھونا۔ نکالنا	سپوزش	سپوزد	سپوزانیدن
ستاندن	ستانیدن	لینا		ستاند	
ستائیدن[1]		سراہنا تعریف کرنا	ستائش	ستاید	
ستدن		لینا	ستد	مقتضب ہے	
ستردن		مونڈنا بال کا	ستردگی	سترد	
ستودن	ستائیدن	تعریف کرنا	ستائش	ستاید	
ستیزیدن		لڑنا	ستیز۔ ستیزه	ستیزد	ستیزانیدن
سرودن	سرائیدن	گانا	سرود	سراید	
سرشتن		گوندھنا	سرشت	سرشد	
سزیدن		لائق ہونا	سزا	سزد	
سفتن[2]		پرونا	سفت	سفتد	
سگالیدن		اندیشہ کرنا	سگالش	سگالد	
سنجیدن		تولنا	سنج۔ سنجش	سنجد	
سوختن	سوزیدن	جلنا۔ جلانا	سوز، سوزش، سوخت	سوزد	
سودن	سائیدن	پیسنا۔ گھسنا	سائیدگی	ساید	
			ش		
شایستن		لائق ہونا	شایستگی، شایست	شاید	

۱؎ یہ مصدر ستودن کا مصدر فرعی ہے۔ ۲؎ بعض اس کو مقتضب بھی کہتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
شلیدن		نچوڑنا۔ سیٹی بجانا		شلد	شلانیدن
شتافتن	شتابیدن	دوڑنا	شتاب	شتابد	
شدن		جانا ۔ ہونا	شد	شود	
شستن		دھونا	شست و شو	شوید	
شکستن		ٹوٹنا۔ توڑنا	شکست شکن	شکند	
شکیبیدن		صبر کرنا	شکیبائی	شکیبد	
شکوخیدن		ٹھوکر کھانا الف ہونا گھوڑے کا	شکوخ	شکوخد	شکوخانیدن
شکافتن		پھٹنا ۔ چیرنا	شگاف	شگافد	
شگفتن		کھلنا	شگفت	شگفد	شگفانیدن
شمردن	شماردن	گننا	شمار	شمارد	
شناختن	شناسیدن	پہچاننا	شناخت شناسائی	شناسد	
شنفتن		سُننا		مقتضب ہے	
شنیدن[1]		سُننا ۔ سونگھنا	شنوائی	شنود	
شوریدن		شور کرنا۔ پریشان ہونا	شورش	شورد	
شیفتن		فریفتہ ہونا		شیبد	
		ط			
طپیدن[2]		تڑپنا	طپش۔ طپاک	طپد	طپانیدن

۱؎ شنودن بھی بمعنی شنیدن آیا ہے اس کا مضارع وہی ہے جو شنیدن کا ہے ۲؎ تپیدن تائے فوقانی سے بھی آتا ہے ۔

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
طرازیدن		نقش کرنا	طراز۔ طرازش	طرازد	
طلبیدن		طلب کرنا	یہ مصدر جعلی ہے	طلبد	
			غ		
غلطیدن		لوٹنا		غلطد	غلطانیدن
غنودن		اُونگھنا	غنودگی	غنود	
			ف		
فرستادن		بھیجنا	فرست	فرستد[۱]	
فرسودن	فرسائیدن	گھِسنا	فرسودگی	فرساید	
فرمودن	فرمائیدن	فرمانا۔ حکم دینا	فرمائش فرمان	فرماید	فرمانیدن
فروختن	فروشیدن(ع)	بیچنا	فروخت	فروشد	
فریفتن	فریبیدن	فریب کھانا فریب دینا	فریب	فریبد	
فہمیدن		سمجھنا	فہم مصدر جعلی ہے	فہمد	فہمانیدن
			ک		
کاستن	کاہیدن	گھٹنا۔ گھٹانا	کاہش	کاہد	
کاشتن	کاریدن	بونا	کاشتکا۔	کارد	
کافتن	کاویدن	کھودنا	کاوش	کاود	
کردن		کرنا	کردار	کند	کنانیدن

۱ فرستادن کا مضارع فرسید غلط ہے ۱۲ منہ

Scanned by CamScanner

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
کشادن۔ کشودن		کھلنا۔ کھولنا	کشائش۔ کشود	کشاید	کشانیدن
کِشتن		بونا	کِشت		
کُشتن		مارڈالنا	کُشش	کُشد	
کشیدن		کھینچنا	کشش	کشد	
کفیدن		پھٹنا	کفیدگی	کفد	
کندن		کھودنا		کَنَد	
کندیدن		کھودنا		کندَد	کندانیدن
کوشیدن		کوشش کرنا	کوشش	کوشد	
کوفتن	کوبیدن	کوٹنا	کوفت	کوبد	کوبانیدن
			گ		
گداختن	گدازیدن	پگھلنا۔ پگھلانا	گداز۔ گدازش	گدازد	
گذاشتن	گذاریدن	چھوڑنا	گذشت۔ گذار گذارش	گذارد	
گذشتن		گذرنا	گذشت۔ گذر	گذرَد	گذرانیدن
گرائیدن		خواہش کرنا	گرائش	گراید	
گرفتن		لینا - پکڑنا	گرفت۔ گیر	گیرد	
گرویدن		رغبت کرنا	گرویدگی	گرود	
گریختن		بھاگنا	گریز	گریزد	
گریستن		رونا	گریہ	گرید	

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
گزاردن		ادا کرنا	گزارش	گزارد	
گزائیدن		کاٹ کھانا		گزاید	
گزیدن		کاٹ کھانا	گزید ۔ گزش	گزد	گزانیدن
گزیدن		قبول کرنا	گزینش	گزیند	
گساردن	گساریدن	چھوڑنا ۔ کھانا		گسارد	
گستردن		بچھانا		گسترد	گسترانیدن
گسستن [1]		ٹوٹنا ۔ توڑنا		گسلد	
گشتن	گردیدن	پھرنا ۔ ہونا	گشت ۔ گردش	گردد	گردانیدن
گفتن		کہنا	گفت ۔ گفتار ۔ گفتگو	گوید	
گماشتن	گماردن	مقرر کرنا	گماشت	گمارد	
گنجیدن		سمانا	گنجائش	گنجد	
گواریدن		ہضم ہونا	گوارش ۔ گوار	گوارد	
		ل			
لافیدن [2]		فضول بکنا	لاف	لافد	
لرزیدن		کانپنا	لرزش ۔ لرزہ	لرزد	لرزانیدن
لغزیدن		پھسلنا	لغزش ۔ لغز	لغزد	لغزانیدن
لیسیدن		چاٹنا	لیس	لیسد	لیسانیدن

[1] گسیختن بمعنی گسستن آتا ہے اور یہ متعدی ہے۔ [2] لافیدن بائے موحدہ سے بھی آیا ہے یعنی لابیدن جس سے لابہ نکلا ہے بمعنی خوشامد ۱۲

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طریق تعدیہ
م					
مالیدن		ملنا	مالش	مالد	
ماندن		مشابہ ہونا۔ رہنا	ماندگی۔ ماند	ماند	
مانستن		مشابہ ہونا	مانائی	مانَد	
مُردن		مرنا	مرگ	میرَد	
مکیدن		چوسنا	مکیدگی	مکَد	مکانیدن
ن					
نازیدن		فخر کرنا۔ ناز کرنا	ناز۔ نازش	نازَد	
نالیدن		رونا	نالہ۔ نالش	نالَد	
نشستن		بیٹھنا	نشست	نشیند	نشانیدن
نکوہیدن		برا کہنا	نکوہش	نکوہَد	
نگاشتن	نگاریدن	لکھنا	نگارش۔ نگار	نگارَد	
نگریستن	نگریدن	دیکھنا	نگرانی	نگرد	
نمودن	نمائیدن	کرنا۔ دیکھنا۔ دکھانا	نمود۔ نمایش	نماید	
نواختن	نوازیدن	سنوارنا۔ سجانا	نوازش۔ نواخت	نوازَد	
نوشتن	نوردیدن	لپٹنا۔ لپیٹنا	نورد	نوردَد	
نوشتن [1]		لکھنا	نوشت	نویسد	نویسانیدن

[1] نوشتن بمعنی لکھنا بائے موحدہ سے بھی آیا ہے۔ منہ

مصدر اصلی	مصدر فرعی	معنی	حاصل مصدر	مضارع	طرق تعدیہ
نوشیدن		پینا	نوش	نوشد	نوشانیدن
نہادن		رکھنا	نہاد	نہد	
نہفتن		چھپنا۔ چھپانا		مقتضب ہے	
نیوشیدن		سُننا	نیوش	نیوشد	
		و			
واخیدن		دُھنکنا		واخد	
ورزیدن		اختیار کرنا	ورزش	ورزد	
ورغلانیدن		برانگیختہ کرنا		ورغلاند	
وزیدن		ہوا کا چلنا	وزش	وزد	
		ہ			
ہراسیدن		ڈرنا	ہراس	ہراسد	ہراسانیدن
ہشتن	ہلیدن	چھوڑنا		ہلد	
		ی			
یارستن		طاقت رکھنا۔ سکنا	یارائی	یارد	
یافتن	یابیدن	پانا	یافت	یابد	

فصل دوم در طرق استعمال مصادر

واضح ہو کہ فارسی مصادر کو بانواع مختلفہ استعمال کرتے ہیں کبھی لفظ در۔ بر۔ فراز۔

Scanned by CamScanner

فرا۔ باز وغیرہ زیادہ کرتے ہیں اور کبھی لفظ دست و چشم و سر پا اور الفاظ کی مصاحبت سے معنی رنگ برنگ پیدا ہوتے ہیں کہ حصر اُن کا اِس مختصر رسالے میں ممکن نہیں ہے مگر اس جگہ چند مصادر کے طُرق استعمال جو نہایت مشہور و رائج ہیں بیان کیئے جاتے ہیں تا کہ طلبا کو اس باب میں بصیرت حاصل ہوا ور محض لاعلمی نہ رہے۔ ومن اللہ التوفیق۔

ارزیدن۔ لائق ہونا۔ بکنا۔ سعدی ؎ نیرزد بخیل آں کہ نامش بری ٭ وگر ردنگارش کند چاکری ٭ توچہ لاف می زنی ہیچ نمی ارزی۔ زید بر جوے نمی ارزد

استادن۔ کھڑا ہونا۔ یہ مصدر ایستادن بہ اشباع کسرہ بھی آتا ہے۔ باز ایستادن کسی کام سے لوٹ آنا۔ کسی کام سے پرہیز کرنا۔

فائدہ۔ اشباع۔ حرکت کا اس قدر کھینچنا کہ فتحہ سے الف۔ کسرہ سے یا اور ضمہ سے واو پیدا ہو جاوے۔ جیسے آچار۔ ایستادن۔ اوفتادن۔

آشفتن۔ پریشان ہونا۔ پریشان کرنا۔ **برآشفتن**۔ غصّہ ہونا۔ سعدی ؎ شہنشہ برآشفت وگفت اے جواں ٭ زحد رفت جورت برین بے زباں ٭

افتادن[۱] ۔ گر پڑنا۔ عاجز ہونا۔ **برافتادن**۔ دور ہونا۔ نابود ہونا۔ **درافتادن** بحث کرنا کسی کے ساتھ کسی معاملے میں۔ باہم جنگ و خصومت کرنا۔ خواجۂ شیراز ع با دُرد کشاں ہر کہ درافتاد برافتاد ٭ **بدست افتادن**۔ حاصل ہونا۔ **درزیرپائے کسے افتادن**۔ عاجزی والحاح کرنا۔ **درپوستین کسے افتادن**۔ عیب بیان کرنا۔ سعدی ؎ دگر پارسایانِ خلوت نشیں ٭ بہ غیبتش فتادند درپوستیں ٭

---

[۱] یہ مصدر باشباع ضمۂ الف یعنی اوفتادن بھی آتا ہے۔

افسردن۔ کمھلانا پھول کا۔ سرد و یخ ہونا بجھنا آگ و چراغ وغیرہ کا مثلاً آتش افسردہ۔ تنور افسردہ۔ چراغ افسردہ۔ ع دلِ تیرہ ہمچو فسردہ چراغ ✦ **افسردنِ تپ** کم ہونا تپ کا۔ **افسردنِ بازار**۔ کاسد و بے رونق ہونا بازار کا۔ ع زدم شانِ فسردہ آں بازارِ شعر ✦ **افسردنِ دل**۔ سرد ہونا دل کا۔ افسردہ دل بمعنی پژمردہ دل سخت دل و بے محبت ؎ در مجلس خود راہ مدہ ہمچو منے را ✦ افسردہ دل افسردہ کند انجمنے را ✦

افشاندن۔ جھاڑنا مثلاً گرد افشاندن۔ زر افشاندن۔ نثار کرنا۔ خیرات کرنا۔ ؎ بفرمود گنجینۂ گوہرش ✦ فشاندند در پاے و زیر سرش ✦ دست افشاندن و آستین افشاندن۔ رقص کرنا۔ رد کرنا۔ لوٹ کا حکم دینا۔ بخشنا۔

افشردن۔ نچوڑنا کسی پھول یا پھل یا تپے کا۔ مضبوط کرنا قدم کا زمین میں۔ گڑونا دانت وغیرہ کا۔ نظامی ؎ بسر بردنِ خصم چوں پے فشرد ✦ بسر برد تیغے کہ بر سر نبرد ✦

آمدن۔ آنا۔ برآمدن۔ باہر نکلنا۔ اٹھنا۔ غالب ہونا۔ بلندی پر چڑھنا۔ معنی اوّل و دوم کا متعلق وصلہ آز کے ساتھ آتا ہے۔ اور معنی سوم کا بلفظ با و معنی چہارم کا بہ بائے استعلاء و لفظ بر۔ جیسے زید از خانہ برآمد۔ آفتاب از افق برآمد۔ سعدی ؎ سر پر مطبع بر نیاید زد وغش ✦ ؎ کس از چوں تو دشمن ندارد غمے ✦ کہ با کودکاں بر نیائی ہمے ✦ جامی ؎ بام برآ و جلوہ دہ ماہِ تمامِ خویش را ✦ مطلعِ آفتاب کن گوشۂ بامِ خویش را ✦ **برآمدنِ زماں**۔ گذرنا زمانے کا۔ سعدی ؎ بسے تیر و دی ماہ و اردی بہشت ✦ برآید کہ ما خاک و باشیم و خشت ✦ **برآمدنِ امید**۔ پورا ہونا آرزو کا۔ سعدی ؎ امید بستہ برآمد و لے چہ فائدہ زانکہ ✦ امید نیست کہ عمرے گذشتہ باز آید ✦ **بہم برآمدن**۔ غصہ ہونا اور رنجیدہ ہونا

ملہ معنی چہارم کی مثال ہے اور اس میں اوّل مصرع سے لفظ بر محذوف ہے۔ ۱۲ منہ

فقرہ۔ زنیق چوں ایں سخن بشنید بہم برآمد۔ درآمدن۔ داخل ہونا۔ **فقرہ**۔ ناگاہ سوارے ساز درآمد۔ از پا درآمدن۔ عاجز ہونا۔ سعدی ؎ نترسد آں کہ بر افتادگاں نبخشاید ٭ کہ گر ز پاے درآید کسش نگیرد دست ٭ بازآمدن و واآمدن۔ لوٹ آنا۔ واپس آنا۔ **فقرہ**۔ چوں از زیارت مکہ بازآمدم دو منزلم استقبال کرد۔ فرازآمدن و فراآمدن۔ نزدیک آنا و ظاہر ہونا۔ سعدی ؎ زسیاش وحشت فراز آمدے ٭ نہ رفتے بکارے کہ باز آمدے ٭ فرود آمدن۔ اُترنا سواری سے یا اور کسی بلند جگہ سے۔ جیسے زید از اسپ فرود آمد۔ سعدی ؎ بمنزل گہ حاتم آمد فرود ٭ برآسود چوں تشنہ بر زندہ رود ٭ بسرآمدن و سرآمدن و برسرآمدن۔ ختم ہونا۔ سعدی ؎ یکے را اجل برسر آورد جیش ٭ سرآمد بروزگاران عیش ٭ و نیز سرآمدن بمعنی سرگروہ ہونا و غالب آنا۔ سعدی ؎ سرآمد بتائید ملک از سراں ٭ نہادند سر بر خطش سروراں ٭ سرآمد بمعنی بہتر و ممتاز و سردار۔ بدست آمدن۔ حاصل ہونا۔ بجاں آمدن۔ تنگ ہونا۔ ناخوش ہونا۔ سعدی ؎ کہ درماندہ ام دستگیرا اے صنم ٭ بجاں آمدم رحم کن بر تنم ٭ پا بسنگ آمدن۔ ٹھوکر کھانا۔ کوئی بلا و مصیبت پیش آنا۔

انداختن۔ ڈالنا۔ پھینکنا۔ ضائع کرنا۔ برانداختن۔ اکھاڑنا درخت وغیرہ کا اُٹھانا کسی چیز کا۔ سعدی ؎ ببر ور درختے کہ بار آورد ٭ برانداز بیخے کہ خار آورد ٭ نظامی ؎ حجاب سیاست برانداختند ٭ ز بیگانگاں حجرہ پرداختند ٭ طرح انداختن کسی چیز کی بنا کرنا یا بنیاد ڈالنا۔ نظامی ؎ طرح عمارات دل انداختند ٭ سنگ سرشتند و گل انداختند ٭ سپر انداختن و سپر افگندن۔ عاجز ہونا۔ عاجزی اختیار کرنا۔ سعدی ؎ نہ ہر جاے مرکب تواں تاختن ٭ کہ جاہا سپر باید انداختن ٭

آوردن۔ لانا۔ برآوردن۔ نکالنا۔ اُٹھانا۔ بلند کرنا۔ سعدی ؎ بیا تا برآریم

Scanned by CamScanner

دستے ز دل + کہ نتواں برآورد فرد از گل + درآوردن۔ داخل کرنا۔ سر برآوردن۔
سر اٹھانا۔ سعدی ؎ یکے سر برآر از گریبانِ غم + بآرام دل با جوانان بچم + سر آوردن
و بسر آوردن۔ ختم کرنا ؎ نفسے می زنم آسودہ و عمرے بسر آرم + غم موجود و پریشانی معدوم
ندارم + گرد برآوردن۔ ہلاک کرنا۔ سعدی ؎ نہ تہمتن چو پایان روزی بخورد + شغاد از نہادش
برآورد گرد + از پا درآمدن۔ عاجز کرنا۔ سعدی ؎ کسے را کہ پیری درآرد ز پائے +
چو دستش نگیرد نہ خیزد ز جائے + فرود آوردن۔ اتارنا سواری یا کوٹھے وغیرہ سے۔
جیسے زید را از اسپ فرود آوردم۔ بدست آوردن۔ حاصل کرنا۔ سعدی ؎ بدست
آوردنِ دنیا ہنر نیست + یکے را اگر توانی دل بدست آر +

بُردن لے جانا۔ لینا۔ جیتنا۔ مقابل باختن بمعنی ہارنا۔ جیسے زید باخت و عمرو بُرد۔
دست بُردن۔ غلبہ کرنا۔ غالب آنا۔ بسر بُردن۔ ختم کرنا۔ سعدی ؎ واں دگر بخت
ہمچنیں ہوسے + ویں عمارت بسر نبرد کسے + آبرو بُردن۔ آبرو زائل کرنا۔ سعدی
؎ بشب گر بِبُرد دے بر شحنہ سوز + گنہ آبرویش نبرد ے بروز + گرو بردن۔ سبقت
لے جانا۔ سعدی ؎ چو ثعبانش آلودہ دنداں بزہر + گرو بردہ از زشت رویانِ شہر +
لقمہ فرو بردن۔ بمعنی بلع کرنا یعنی نگلنا۔

بُریدن۔ کاٹنا چاقو و تلوار وغیرہ کا۔ جیسے ایں کارد خوب می بُرّد۔ کاٹنا گرہ کا۔ جیسے
کیسہ بُرد (گرہ کٹ) اور قطع کرنا کپڑے کا۔ اور قطع کرنا محبت و دوستی کا۔ اور توڑنا عہد و پیمان
کا۔ سعدی ؎ جدائی ز احباب کردن خطا ست + بُریدن ز یاران خلاف وفا ست +

بستن۔ باندھنا و بند کرنا گرہ و دروازہ وغیرہ کا۔ جیسے در بستن و گرہ بستن۔
جوڑنا و اصلاح کرنا۔ جیسے دست شکستہ بستن و رخنہ بستن۔ آمادہ ہونا کسی کام پر

جیسے میاں بستن و کمر بستن ۔ بر بستن ۔ حاصل کرنا ۔ فائدہ اُٹھانا ۔ سعدی ؎ بر وجان یا! در اخلاص پیچ ✽ کہ نتوانی از خلق بر بست ہیچ ✽ و نیز بر بستن بمعنی اہتمام دادن صورت بستن ۔ حاصل ہونا ۔ سعدی ؎ کہ یک لحظہ صورت نہ بندد اماں ✽ چو پیمانہ پر شد بدور زماں ✽ کار بستن ۔ عمل کرنا ۔ سعدی ؎ نخواہم دریں نوع گفتن بسے ✽ کہ حرفے بس ار کار بندد کسے ✽ بار بستن ۔ سفر کرنا ✽

پختن ۔ پکنا میوے کا ۔ اور پکانا کھانے کا ۔ لازمی اور متعدی دونوں آیا ہے جیسے میوہ پختہ ۔ پختہ مغز و طعام پختہ ۔ اور خیالات و تصورات بیہودہ کرنا جیسے چہ خیال خام پختی ۔ سعدی ؎ ہر آں کہ تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت ۔ دماغ بیہودہ پخت و خیال باطل بست ✽

پرسیدن ۔ پوچھنا حال کا ۔ بیمار را پرسیدن ۔ بیمار کی عیادت کرنا ۔ اور بمعنی تعزیت کے بھی آیا ہے ع چوں بمیرم پرسش پروانہ و بلبل کنید ✽

پرداختن ۔ بنانا ۔ سعدی ؎ دو صد مہرہ در یک دگر ساختست ✽ کہ گل مہرۂ چوں تو پرداختست ✽ مشغول ہونا ۔ منہ پھیرنا ۔ فارغ ہونا ۔ خالی کرنا ۔ معنی سوم و چہارم و پنجم کا متعلق از کے ساتھ آتا ہے ۔ فردوسی ؎ از اں بدکنش دیو روے زمیں ✽ بپرداز و پردختہ کن دل ز کیں ✽ نظامی ؎ میزباں چوں ز کار خود پرداخت ✽ بیش از اندازہ پیشکشہا ساخت ✽ سعدی ؎ تواں از کسے دل بپرداختن ✽ کہ دانی کہ بے او تواں ساختن ✽

پوشیدن ۔ پہننا کپڑے کا ۔ اس معنی میں لازمی و متعدی دونوں آیا ہے ۔ اور چھپانا بھید یا منہ وغیرہ کا ۔ اس معنی میں متعدی ہے ۔ جب اُس کو لازمی کریں گے تو پوشیدہ شدن استعمال کریں گے چشم پوشیدن ۔ اغماض و تغافل کرنا ۔ در پوشیدن ۔ بند کرنا در کا ۔

پیچیدن۔ پھیرنا پنجہ وغیرہ کا ع سرپنجۂ ناتواں برمپیچ ٭ پیچ و تاب کھانا و غصہ کرنا جیسے زید عبث بمن می پیچد۔ برخود پیچیدن بھی اسی معنی میں مستعمل ہے ؎ بہ محمود گفت این حکایت کسے ٭ بہ پیچید از اندیشہ برخود بسے ٭ سرپیچیدن و گردن پیچیدن کسی کام سے انکار کرنا۔ و سرکشی کرنا۔ اس کا متعلق و صلہ از کے ساتھ آتا ہے۔ نظامی ع سر از لہو پیچید و گوش از سماع ٭ سعدی ؎ تو ہم گردن از حکم داور مپیچ ٭ کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ ٭ بر انگشت پیچیدن۔ مشہور کرنا۔ یا درکھنا ؎ نہ یک عیب او را بر انگشت پیچ ٭ جہانے فضیلت بر آور بہ ہیچ ٭

تافتن و تابیدن۔ بٹنا رسی و تاگے وغیرہ کا۔ پھیرنا پنجہ وغیرہ کا فقرہ سیاہ گیسواں بتافت۔ زید پنجۂ عمر بتافت ۔ رو از من متاب۔ گرم ہونا۔ گرم کرنا۔ چمکنا و روشن ہونا۔ سعدی ؎ کسے دید صحرائے محشر بخواب ٭ مس تفتہ روئے زمین آفتاب ٭ تنور شکم دمبدم تافتن ٭ مصیبت بود روز نایافتن ؎ بالائے سرش ز ہوشمندی ٭ می تافت ستارۂ بلندی ٭ برتافتن۔ پھیرنا و اٹھانا و قبول کرنا۔ ناصر علی ؎ رنگ عشرت برنمی تابد دل آزردہ ام ٭ سنگسار خندۂ کبکم دریں کہسارہا ٭ سرتافتن۔ اعراض کرنا و انکار کرنا۔ اس کا متعلق و صلہ از کے ساتھ آتا ہے۔ سعدی ؎ عزیزے کہ ہر کز درش سر بتافت ٭ بہر در کہ شد ہیچ عزت نیافت ع متاب اے پارسا رو از گنہگار ٭ عنان تافتن ۔ اعراض کرنا۔ اس کا صلہ از کے ساتھ آتا ہے۔ نظامی ؎ نشاید ترا جز بتو یافتن ٭ عناں باید از ہر درے تافتن ٭

جستن۔ کودنا۔ نکل جانا کسی چیز کا کسی جگہ سے ۔ مثلاً اسپم نہر را می جہد۔ تیر از کمان بر جست۔ سعدی ؎ کو مرغ دولت ز قیدم بجست ٭ ہنوزش سررشتہ داری بدست ٭

ونیز جستن بمعنی پھڑکنا اعضا کا۔ مثلاً چشم می جہد۔

جوشیدن۔ اُبلنا۔ جیسے آب جوشیدن وخون جوشیدن و دیگ جوشیدن د آب جوش بھی مستعمل ہے۔ روغن جوش پکن نہیں کہتے۔ بلکہ روغن داغ پکن کہتے ہیں اور جس برتن میں روغن داغ کرتے ہیں اُس کو بھی روغن داغ کہتے ہیں۔ اور جوشیدن بمعنی محبت و دوستی کرنے کے بھی آتا ہے۔

چمیدن۔ ٹہلنا۔ سیر و تفریح کے لیئے ؎ ہمی گفت و در روضہائی چمید ٭ کزاں خار برمن چہ گلہا دمید ٭ کھیت و ڈال وغیرہ کا ہوا سے لچکنا و جھکنا ؎ چو باد صبا بر گلستاں وزد ٭ چمیدن درخت جواں راسزد ٭

چیدن۔ چُننا۔ برچیدن و بازچیدن۔ اُٹھانا۔ دور کرنا۔ حافظ ؎ بمژگانِ سیہ کردی ہزاراں رخنہ در دینم ٭ بیا کز چشم بیمارت ہزاراں درد برچینم ٭ حافظ ع عنقا شکار کس نشود دام باز چیں ٭ دانہ چیدن وسفرہ چیدن بمعنی گستردن۔

خاستن و برخاستن۔ کھڑا ہونا۔ کسی مقام سے چلا جانا۔ دور ہونا کسی چیز کا جیسے ع گردِ اغیار ازمیاں برخاست ٭ فقرہ تا فتنہ فرونشست ونزاع برخاست۔

خرامیدن۔ ٹہلنا سیر و تفریح کے لیئے۔ کھیت وڈال وغیرہ کا لچکنا و جھکنا ؎ زرع را چوں رسید وقت بدرد ٭ نخرامد چناں کہ سبزۂ نو ٭

خوردن۔ کھانا۔ پینا۔ پانی یا شراب وغیرہ کا ع ایے حکم شرع آب خوردن خطاست

برخوردن۔ منتفع ہونا وکامیاب ہونا کسی چیز سے۔ درخوردن و برخوردن۔ و واخوردن و بازخوردن۔ چاروں بمعنی ملاقی ہونا وروبرو ہونا ؎ جان تازہ می شود زِلب روح پرورت ٭ ہرکس کہ برخورد بتو از عمر برخورد ٭

ے از توتا دور نیم ازما دوری گرد حیات + با تو چوں بری خوریم از زندگی بری خوریم +
فرو خوردن۔ غصّہ کا تحمل کرنا۔ اور کسی کی بات برداشت کرنا۔ سعدی ع فرو خورد شیخ ایں حدیث از کرم + ع۔ فرو خورد خشم سخنہاے سرد + چشم خوردن۔ نظر بد لگنا۔ وبچشم خوردن۔ حسد سے دیکھنا و نظر بد لگانا۔ بگوش خوردن۔ سُننا۔ مثلاً تا خبر رفتنت بگوش خوردہ است صبر از من بردہ است +

دادن۔ دینا کسی چیز کا۔ چنانچہ زر دادن و مال دادن و ساغر دادن و دل دادن۔ آب دادن۔ پانی پلانا جانوروں کو ع سگے ناتواں را دمے آب داد + اور سینچنا کھیت وغیرہ کا۔ اور تیز کرنا چھری و تلوار وغیرہ کا اور رونق دینا۔ دست دادن و دست بہم دادن۔ حاصل ہونا۔ از دست دادن۔ ضائع و تلف کرنا۔ باز دادن و وادادن۔ پھیرنا و کھولنا ع۔ تواں باز دادن رہِ نرہ دیو + سر دادن چھوڑنا بندوق و توپ وغیرہ کا۔ اور رہا کرنا جانوروں کا۔ بر باد دادن نیست و نابود کرنا پریشان کرنا۔ آتش دادن۔ ترک کرنا۔ اور کسی کو غضب میں لانا۔

داشتن۔ رکھنا۔ اٹھانا۔ جب اُس کا متعلق وصلہ آز کے ساتھ آوے ے فدائی ندارد ز مقصود جنگ + دگر بر سرش تیر بارند و سنگ + پائے داشتن و برپائے داشتن بمعنی قائم رکھنا ع فروگفت انصاف را پائے دار + برداشتن۔ اُٹھانا۔ مقابل گذاشتن و بلند کرنا۔ جیسے علم برداشتن و بمعنی پذیرفتن (قبول کرنا) چشم داشتن۔ اُمید رکھنا۔ چشم داشت۔ توقع و اُمید۔ چشم براہ داشتن۔ انتظار کرنا۔ گوش داشتن و گوش فرا داشتن ہر دو بمعنی کان لگانا و متوجہ ہونا۔ ے بمن دار گفت اے جواں مرد گوش + کہ دانم جواں مرد را پردہ پوش + سر چیزے داشتن۔ اُس چیز کی خواہش کرنا۔

دمیدن ۔ طلوع ہونا صبح کا ۔ اُگنا ۔ پھوٹنا ۔ مثال ہر سہ سعدی ؎ نزیبد مرا با جواناں چمید ✝ چو بر عارضم صبح پیری دمید ✝ ؎ بہ سبزہ کجا تازہ گردد دلم ✝ کہ سبزہ بخواہد دمید از گلم ✝ اہلی شیرازی ؎ ساقی ازاں بادۂ منصور دم ✝ در رگ و در ریشۂ من صور دم ✝

دوختن ۔ سینا ۔ چشم دوختن و دیدہ بردوختن ۔ امید نہ رکھنا ۔ اغماض و تغافل کرنا ع خردمند از و دیدہ بر دوختے ✝

دیدن ۔ دیکھنا آنکھ سے یا معلوم کرنا دل سے ۔ وا دیدن ۔ غور سے دیکھنا ۔ وا دید و باز دید ۔ کسی کی ملاقات بعد اُس کی ملاقات کے ۔ بچشم خود دیدن ۔ تاکید ہے دیکھنے کی ۔ سعدی ؎ بچشم خویش دیدم در بیاباں ✝ کہ آہستہ سبق برد از شتاباں ✝

راندن ۔ ہانکنا چوپایہ وغیرہ کا ۔ مثلاً مگس راندن ۔ کبھی انسان کے لیے بھی آتا ہے ۔ مثلاً دہ مرد جرار صد تن را می رانند ۔ اور بمعنی دور کرنے کے بھی مستعمل ہے ؎ ۔ توقع براند ز ہر مجلست ✝ براں از خودش تا نراند کست ✝ ملک راندن ۔ حکومت و سلطنت کرنا ۔

رسیدن ۔ پہونچنا ۔ فرا رسیدن ۔ فراز رسیدن ۔ نزدیک پہونچنا ۔ بسر رسیدن آخر ہونا ؎ تیغے کشیدہ بر سرم آں سیمبر رسید ✝ گفتم کہ چیست گفت کہ عمرت بسر رسید ✝ چشم رسیدن ۔ نظر بد لگنا ۔

رفتن ۔ جانا ۔ فرا رفتن ۔ نزدیک جانا ؎ جو لانے فرا رفت کا سے پیر مرد ✝ فرو رفتن ۔ معدوم و نیست ہونا ۔ مرجانا ۔ ڈوب جانا ع فرو رفت جم را یکے نازنیں ✝

ؔ صیغہ امر ہے دمیدن سے ۱۲ منہ

درخود فرو رفتن یا شدن۔ حیران و سراسیمہ ہونا ؎ ز آہن جہاں گم شد آں جنگ جو ٭ کہ در خود رود کوہ آہن فرو ٭ برباد رفتن۔ نیست و نابود ہونا۔ پریشان ہونا۔ آب رفتن۔ بے عزت ہونا۔

ریختن۔ گِرنا۔ گرانا پانی وغیرہ کا۔ خون ریختن۔ قتل کرنا۔ رنگ ریختن۔ زائل و متغیر ہونا رنگ کا۔ اور اُس کا زائل کرنا۔ ؎ کہ حالش بگردید و رنگش بریخت ٭ ز ہیبت بہ پیغولہ در گریخت ٭ آب ریختن و آبرو ریختن۔ بے عزت کرنا ؎ ز ریزد خدا آبروے کسے ٭ کہ ریزد گنہ آب چشمش بسے ٭ کہتے ہیں کہ سر قلیان آتش بریز۔ یعنی چلم پر آگ رکھو۔

زدن۔ یہ مصدر بہت معنوں میں مستعمل ہے۔ بمعنی خوردن و نوشیدن۔ جیسے لقمہ زدن۔ کباب زدن۔ شراب زدن۔ ساغر زدن۔ وبمعنی نگاشتن۔ چوں خط زدن و رقم زدن۔ وبمعنی نمودن۔ چوں عشق زدن۔ خضاب زدن۔ فریاد زدن۔ شانہ زدن۔ وبمعنی داشتن۔ چوں چشم بہ راہ زدن۔ وبمعنی برداشتن۔ مثلاً دامن برزدن۔ آستین برزدن۔ وبمعنی افگندن۔ جیسے چین بر پیشانی زدن۔ وبمعنی دادن۔ چوں بوسہ زدن۔ وبمعنی تاراجیدن۔ (لوٹنا) چوں راہ زدن۔ قافلہ زدن۔ کارواں زدن۔ وبمعنی درودن (کاٹنا) چوں شاخ زدن۔ ناف زدن۔ وبمعنی برآوردن۔ (نکالنا) چوں آبلہ زدن۔ وبمعنی بستن۔ چوں شیرازہ زدن۔ طرّہ زدن۔ سائیاں زدن۔ پردہ زدن۔ وبمعنی کشیدن۔ چوں قلم زدن۔ عماری زدن۔ بر سیخ زدن۔ وبمعنی نواختن۔ چوں طبل زدن۔ دف زدن۔ وبمعنی گفتن۔

؎ یہ شعر فصل کی تعریف میں ہے۔ ۱۲ منہ

چوں سخن زدن. آفریں زدن. مثل زدن. حرف زدن. دم زدن. و بمعنی گستردن[۱۷].
چوں تخت زدن. زانو زدن. و بمعنی کشادن[۱۸]. چوں رگ زدن. فال زدن. و بمعنی
برپا کردن[۱۹]. (دکھڑا کرنا) چوں خیمہ زدن و علم زدن. و بمعنی ساختن[۲۰]. چوں خشت
زدن. سرزدن[۲۱]. واقع ہونا و ظاہر ہونا. سرپا زدن[۲۲]. انکار کرنا و اعراض کرنا.
ٹھوکر مارنا. چشمک زدن[۲۳]. آنکھ مارنا. چشم زدن[۲۴] و چشم برہم زدن. پلک مارنا.
سرو ازدن[۲۵]. انکار کرنا. تن زدن[۲۶]. راضی ہونا. آتش زدن[۲۷]. ترک کرنا. اور کسی کو
غضب میں لانا اور بیقرار کرنا.

شدن. ہونا. جانا. مثال دوم. سعدی ع بہ تنہا نداند شدن طفل خرد +
برشدن. اوپر جانا. ❁ نبودے بجز آہ بیوہ زنے + اگر برشدے دودے از روزنے +
بازشدن و واشدن. کھلنا دریا گرہ یا پردہ وغیرہ کا. غنچہ و دل باز شدن.
اُس کا کھلنا. و نیز بازشدن. لوٹنا ع. باز شد از عراق خرم و شاد + فراشدن.
آگے جانا. سعدی ❁ فراشو چو بینی در صلح باز + کہ ناگہ در توبہ گردد فراز +
فروشدن بمعنی فرورفتن یعنی نیست ہونا. جیسے دریں مغاک فروشد. بدست شدن.
حاصل ہونا. سعدی ❁ درجہاں دوستے بدست نہ شد + کہ از و دردلم شکست نشد +
بسر شدن. آخر ہونا. سعدی ❁ دریں امید بسر شد دریغ عمر عزیز + کہ آنچہ دردلم
است از درم فراز آید + برطرف شدن. دور ہونا.

شکستن. توڑنا اور ٹوٹ جانا. جیسے دل شکستن و بال و پر شکستن.
نان شکستن. خامہ شکستن. سعدی ❁ شکستہ قدح گر بہ بندد جست +
نیاورد خواہد بہائے درست + و بمعنی خم و تاب دادن. جیسے زلف شکستن. و

نامہ شکستن بمعنی دور کردن. جیسے بہار شکستن و خمار شکستن. بر شکستن بمعنی رنجیدہ ہونا۔ مثلاً فلانے ازیں سخن بر شکست - اور کنارہ کرنا و اعراض کرنا ؎ یکے فتنہ دید از طرف بر شکست + یکے درمیان آمد و سر شکست + عنان بر شکستن. اعراض کرنا. مجلس بر شکستن. متفرق ہونا. صحبت کرنا۔

فائدہ شکستن و گسستن و گسیختن مرادف ہیں. مگر اوّل اشیائے ثقیل و درشت کے توڑنے میں مستعمل ہے. اور دوم و سوم. اشیائے سبک و نرم کے توڑنے میں مثلاً تار شکستن. و ریسمان گسستن و لفظ عہد و پیماں شکستن گسستن و گسیختن تینوں سے مستعمل ہے۔

شنیدن سُننا. قبول کرنا. مثال ہر دو. سعدیؒ. شنیدم کہ نشنید و خونش بریخت + ز فرمان داور کہ داند گریخت + اور سونگھنا. سعدی ؎ ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی + چرا در چاہ کنعانش ندیدی + بگوش شنیدن. تاکید ہے سُننے کی۔

گردن. کرنا. بر کردن. بلند کرنا. اُٹھانا. سعدی ؎ ازاں تیرہ دل مرد صافی دروں + قفا خورد و سر بر نکرد از سکوں + ؎ شب از نرگسش قطرہ چندے چکید + سحر دیدہ بر کرد و دنیا بدید + بر کردن پہننا - پہننا کپڑے و زرہ وغیرہ کا. معانقہ کرنا - باز کردن و وا کردن - جُدا کرنا و کھولنا. کسی چیز کا - مثلاً دریا گرہ یا زنجیر وغیرہ سعدی ؎ سبک طوق و زنجیر از و باز کرد + چپ و راست پوئیدن آغاز کرد + در فراز[۱] کردن - در کا بند کرنا و کھولنا ؎ بروے من ایں در کسے کرد باز + کہ کردی تو بر روے او در فراز + گوش کردن. خیال کرنا. سعدی ؎ بجنگ آر و با دیگراں نوش کن + نہ بر فضلۂ دیگراں گوش کن + بدست کردن - حاصل کرنا۔

۱؎ فراز بمعنی بند و کشادہ دونوں آتا ہے. لغات زمند آدسے ہے ۱۲ منہ

سعدی ؎ طبیب راہ نشیں نبض عشق نشناسد + برو بدست کن اے مردہ دل مسیح دمے + سر کردن ۔ شروع کرنا ۔ کسی چیز کا انجام کو پہونچانا و کامل کرنا ۔ چھوڑنا بندوق وغیرہ کا ۔ کار کردن ۔ اثر کرنا ۔ سعدی ؎ نہ گفت اندرو کارکردے نہ چوب + برباد کردن نیست و نابود کرنا ۔ پریشان کرنا ۔

کشتن ۔ مار ڈالنا ۔ بجھانا آگ و چراغ وغیرہ کا ۔ سعدی ؎ جہاں سوز را کشتہ بہتر چراغ + یکے بہ در آتش کہ خلقے بداغ +

کشیدن ۔ کھینچنا ۔ برکشیدن ۔ کھینچنا ۔ دور کرنا ۔ نکالنا ۔ بلند کرنا ۔ کسی کا مرتبہ و رتبہ زیادہ کرنا ۔ جیسے شمشیر از نیام برکشید ۔ آہ از دل برکشید ۔ نظامی ؎ علم برکش اے آفتاب بلند + خراماں خواے ابرشکیں پرند + در برکشیدن ۔ پہننا و پہنانا کپڑے وغیرہ کا ۔ معانقہ کرنا ۔ سرکشیدن و گردن کشیدن یعنی نافرمانی کرنا ؎ زمانے بہ پیچید و درماں ندید + رہ سرکشیدن ز فرماں ندید + زبان درکشیدن و دم درکشیدن ۔ خاموش رہنا ۔ و قلم درکشیدن و خط کشیدن ۔ یعنی محو کرنا ۔ سعدی ؎ زباں درکش اے مرد بسیار داں ۔ کہ فردا قلم نیست بر بے زباں + ؎ شنیدم کہ شاپور دم درکشید + چو خسرو بنامش قلم درکشید + واکشیدن و بازکشیدن ۔ پرہیز کرنا و جدا کرنا ۔ جیسے دل را از خوے بد واکشید ۔ دست کشیدن و دست بازکشیدن ۔ پرہیز کرنا ۔ مثلاً دست از طعام بازکشید ۔ دست ازیں کار بازکشید ۔ روے درہم کشیدن و ابرو بہم برکشیدن ۔ رنجیدہ ہونا ۔ اعراض کرنا ۔ مثلاً ۔ ملک روے ازیں سخن درہم کشید ؎ چو فرخندہ خوے ایں حکایت شنید + ز گوینده ابرو بہم برکشید + سفرہ و خوان کشیدن ۔ دسترخوان بچھانا ۔ سعدی ؎ بخلق و فریفتن

Scanned by CamScanner

گریبان کشید • بمنزل در آوردش و خوان کشید +

کندن ۔ کھودنا کنوئیں و گڑھے وغیرہ کا ۔ اور اکھاڑنا درخت کا ۔ اور جانوروں کے بال و پر کا ۔ سعدی ؎ بسے برنیاید کہ بنیاد خود + بکند آں کہ بنہاد بنیاد بد + بخور مردم آزار را خون و مال + کہ از مرغ بر کندہ بہ پر و بال + برکندن نیز بمعنی اکھاڑنا ۔ دست کندن ۔ ہاتھ کاٹنا ازراہ حسرت و افسوس کے ۔ سعدی ؎ ہمی گفت حاتم پریشان و مست + ز حسرت بدندان ہمی کند دست + دندان کندن ۔ دانتوں میں خلال کرنا ۔

گرفتن ۔ لینا ۔ فرض کرنا ۔ اثر کرنا ع گیرم کہ غمت نیست غم ما ہم نیست + ؎ عالمے را کہ گفت باشد و بس + چوں بگوید نگیرد اندر کس + گرفتن ماہ و خور ۔ خسوف و کسوف ہونا ۔ ناخن گرفتن ۔ ناخن کترانا ع ناخن چو شد بلند + گرفتن سزائے اوست گرفتن دندان ۔ دانت اکھاڑنا ۔ در گرفتن ۔ اثر کرنا و روشن کرنا آگ کا ۔ احاطہ کرنا و گھیرنا کسی چیز کا ۔ موافق ہونا صحبت کا ۔ بر گرفتن ۔ جدا کرنا ۔ اٹھانا ۔ حاصل کرنا ۔ ان کا تعلق از کے ساتھ آتا ہے ۔ مثلاً دل از کارے بر گرفت ۔ خاطر از یارے بر گرفت ۔ سر از تن بر گرفت ع نشاید قدم بر گرفتن ز جائے + در بر گرفتن پہننا و پہنانا کپڑے وغیرہ کا ۔ معانقہ کرنا ۔ سعدی نثر و درختاں را بخلعت نوروزی قبائے استبرق در بر گرفتہ ۔ واگرفتن و باز گرفتن ۔ پھیر لینا و باز رکھنا ۔ سعدی ؎ باسید ما کلبہ ایں جا گرفت + نہ مردی بود نفع ازو واگرفت + فرا گرفتن ۔ سیکھنا یاد کرنا ۔ معلوم کرنا ۔ بگوش گرفتن ۔ قبول کرنا ؎ مرد باید کہ گیرد اندر گوش + ور نبشت است پند بر دیوار + دست گرفتن ۔ اعانت و مدد کرنا ۔ پا گرفتن ۔ قیام کرنا

چشم گرفتن۔ اغماض و تغافل کرنا ؎ در جہاں ارباب ہمت نیز بے حاجت نیند + از متاع آفرینش چشم می گیریم ما + از سر گرفتن۔ شروع کرنا۔ پیش گرفتن۔ اختیار کرنا سر خویش گرفتن۔ گھر کا راستہ اختیار کرنا۔ باہر جانا۔ سعدی ؎ برو ہر چہ می بایدت پیش گیر + سر انداری سر خویش گیر +

گریستن۔ رونا۔ رحم کرنا۔ عرفی ؎ من خود کیم کہ گریہ بحالم کنی ولے + می زیبدت بہ نرگس شہلا گریستن + شکوہ و فریاد کرنا۔ جیسے زید از دست تو می گرید +

گزیدن۔ کاٹنا سانپ و کتے وغیرہ کا۔ جیسے مار گزیدہ از ریسمان می ترسد۔ لب گزیدن۔ پشت دست گزیدن۔ حسرت و افسوس کرنا۔ سعدی ؎ بہ تندی سبک دست بردن بہ تیغ + بدندان گزد پشت دست دریغ +

گشتن و گردیدن۔ ہونا۔ گھومنا۔ لوٹنا و پھرنا۔ برگشتن و برگردیدن۔ بازگشتن و بازگردیدن۔ لوٹنا و واپس آنا۔ برگشتن زماں۔ زمانے کا بدل جانا۔ سعدی ع شنیدم کہ برگشت از و روزگار + واگشتن۔ کھلنا۔ کھلنا۔ سرگشتن پریشان ہونا۔

مُردن۔ مرنا۔ چراغ و آگ کا بجھنا۔ ؎ چراغ دل فرو مرد از حدیث پند گویانم + کسے آں بہ کہ دور از مردم بیہودہ گو باشد +

ماندن۔ رہنا۔ چھوڑنا۔ کسی چیز کے مانند و مشابہ ہونا۔ سعدی ع بجنگش گرفتی بہ صلحش بماں + فقرہ۔ یکے تحریرہ عشا بستہ و دیگرے منتظر عشا نشستہ ایں بداں کے ماند۔ درماندن و فروماندن۔ عاجز ہونا۔ سعدی ؎ تو دانی کہ مسکین و بیچارہ ام + فرو ماندۂ نفس امارہ ام + بازماندن و واماندن و فروماندن

پیچھے رہنا۔

نہادن۔ رکھنا۔ چھوڑنا و بمعنی قرار دادن یعنی ٹھہرنا۔ سر نہادن۔ اطاعت قبول کرنا۔ بر نہادن۔ دور کرنا۔ مثال ہر دو۔ سعدی ﷺ قدم رنجہ فرمائے تا سر نہم ؎ سر جہل و نار استی بر نہم ؎ ونیز سر نہادن بمعنی خواب کردن کے بھی مستعمل ہے۔ تہمت نہادن۔ بمعنی تہمت بستن۔

ہشتن و ہلیدن ۔ چھوڑنا۔ فرو ہشتن۔ لٹکانا۔

یافتن ۔ پانا۔ دریافتن۔ معلوم کرنا۔ حاصل کرنا۔ دست یافتن۔ غالب ہونا۔

فائدہ ۔ لفظ پیش سے فائدہ قبلیت زمانی و مکانی کا اکثر مصادر میں حاصل ہوتا ہے۔ جیسے پیش آمدن۔ پیش گفتن۔ پس آوردن۔ پیش دادن قبلیت زمانی میں بولتے ہیں اور پیش آمدن پیش آوردن۔ پیش داشتن۔ پیش کردن پیش نہادن قبلیت مکانی میں کہتے ہیں۔ اسی طور پر لفظ پس۔ بعدیت مکانی و زمانی دونوں میں بولتے ہیں۔ مثلاً پس رفتن۔ پس نشستن۔ پس آمدن وغیرہ۔

باب دوم در علم نحو

نحو ۔ اُن قواعد کا نام ہے جن سے ترکیب کلمات کی حقیقت معلوم ہو۔ **غرض** اس سے یہ ہے کہ ترکیب کلمات میں خطا واقع نہ ہو۔ اور اس کے معنی درستی سے سمجھ لیئے جاویں۔ **موضوع** اس کا کلام ہے۔

تقسیم کلمہ باعتبار اصطلاح نحو

واضح ہو کہ لفظ مفرد (کلمہ) سے اگر ایک معنی سمجھے جائیں اور وہ بھی معین ہوں تو

اُس کو علم کہتے ہیں اور اگر کئی معنی سمجھے جائیں اور ہر ایک معنی کے لئے واضع نے وضع کیا ہو تو اُس کو مشترک کہتے ہیں جیسے عین بمعنی آنکھ و بمعنی چشمہ اور اگر ہر ایک کے لئے واضع نے وضع نہیں کیا بلکہ پہلے ایک معنی کے لئے وضع کیا اور پھر کسی مناسبت سے دوسرے معنی میں مستعمل ہوتا ہے پس اگر معنی اول متروک ہیں تو ثانی کو منقول کہتے ہیں۔ وہ باعتبار ناقل کے تین قسم پر ہے عرفی وہ ہے کہ جس کا ناقل عرف عام ہو۔ یعنی اہلِ زبان اپنی بول چال میں اُس لفظ کو معنی غیر وضعی میں استعمال کرتے ہوں اور معنی وضعی کو متروک کر دیا ہو۔ جیسے لفظ دابہ۔ شرعی وہ جس کو شرع نے معنی غیر وضعی میں استعمال کیا ہو۔ جیسے صوم و صلوٰۃ۔ اصطلاحی وہ جسے کسی جماعت مخصوصہ نے معنی غیر وضعی میں استعمال کیا ہو۔ جیسے فعل۔ اور اگر لفظ مفرد معنی وضعی اور غیر وضعی دونوں میں مستعمل ہے تو وضعی کو حقیقی اور غیر وضعی کو مجازی کہتے ہیں۔ جیسے حاتم بولیں اور جس کا نام تھا وہی مراد لیں یا شیر سے وہی جانور درندہ مراد لیں تو معنی حقیقی ہے اور اگر حاتم سے سخی۔ اور شیر سے مرد دلاور مراد لیں تو معنی مجازی ہیں۔

فائدہ۔ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں کسی علاقہ کا ہونا ضرور ہے۔ اگر اُس میں علاقہ تشبیہ کا ہو تو ایسے مجاز کو استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے زید شیر است اور اگر سوائے تشبیہ کے اور کوئی علاقہ ہو تو اُس کو مجاز مرسل کہتے ہیں جیسے ؎ بدر کرد ناگہ یکے مشتری ، بخرمائے از دستم انگشتری ، یہاں دست سے انگشت مراد ہے۔ باعتبار علاقہ جزئیت کے۔

فائدہ۔ اگر چند لفظیں ایک معنی کے لئے موضوع ہوں تو اُن کو مرادف کہتے ہیں۔ جیسے اسد و لیث۔ تحسین و زہ۔ عدل و انصاف۔

جاننا چاہیے کہ مُرکب وہ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے بنے۔ پس اگر سننے والے کو

اُس سے خبر یا طلب معلوم ہو تو اُس کو **مُرکّب تام**۔ **مُرکّب مفید**۔ **جملہ**۔ **کلام** کہتے ہیں اور اگر پورا مطلب حاصل نہ ہو یعنی کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو تو اُس کو **مُرکّب ناقص**۔ **مُرکّب غیر مفید** کہتے ہیں۔

فصل اوّل در بیان مُرکّب غیر مفید

مُرکّب غیر مفید کی چار قسمیں ہیں۔ اضافی۔ توصیفی۔ امتزاجی۔ غیر امتزاجی۔

مُرکّب اضافی وہ ہے جس میں ایک کلمہ کو دوسرے کی طرف نسبت کریں جو نسبت کیا جاتا ہے وہ **مضاف** ہے اور جس کی طرف نسبت کریں وہ **مضاف الیہ**۔ اکثر مضاف پہلے اور مضاف الیہ پیچھے آتا ہے ایسے وقت میں مضاف مکسور ہوتا ہے اس طور کی اضافت کو **اضافت مستوی** کہتے ہیں اور جب وقت مضاف الیہ کو پہلے کر دیتے ہیں تو کسرہ واجب الحذف ہو جاتا ہے۔ جیسے غریب آشنا۔ سیّاح دوست اس کو **اضافت مقلوب** کہتے ہیں۔

قاعدہ۔ کبھی اضافت مستوی میں بھی کسرہ نہیں لاتے اور اس کسرہ دور کرنے کو **فکِ اضافت** کہتے ہیں۔ جیسے صاحبدل۔ اکثر لفظ سر و صاحب میں کسرہ نہیں لاتے۔ جیسے سرچشمہ۔ سرپنجہ وغیرہ اور جب ضمیر متصل مضاف الیہ واقع ہو تو اُس وقت کسرہ واجب الحذف ہوتا ہے۔ جیسے دلم

فائدہ۔ مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ کبھی نکرہ۔ کبھی معرفہ۔

تنبیہ۔ اضافت کا فائدہ تعریف ہے۔ جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو اور تخصیص ہے جب نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو۔ جیسے غلامِ زید۔ غلامِ عمرو۔

Scanned by CamScanner

قاعدہ۔ جس اسم کے آخر الف یا واؤ ہوتا ہے اُس میں وقتِ اضافت ایک یٰ بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے دانائے روزگار۔ دیبائے روم۔ بوئے گل خوئے دوست مگر وقت آنے ضمیر کے الحاق یا کا ضرور نہیں ہے۔ مثلاً دیباش۔ بوش۔ عرفی سے حُسن زیباش خیل عشق آورد۔ اور جب اسم کے آخر ہائے ہوز ہو تو اُس ہ کو ہمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے خوشۂ انگور۔ بندۂ خدا۔ نالۂ دل۔

اضافت کی نو قسمیں ہیں

۱۔ تملیکی۔ اضافت ملک کی مالک کی طرف۔ جیسے عصائے کلیم۔ خرِ عیسےٰ۔

۲۔ تخصیصی۔ اضافت مختص کی جانب مختص کے جیسے روزِ شکار۔ گُل بوستان۔

۳۔ توضیحی۔ اضافت عام کی طرف خاص کے۔ جیسے شہرِ کوفہ۔

۴۔ بیانی۔ جس میں مضاف الیہ حقیقت اور مادّہ مضاف کا ہو۔ جیسے دیوارِ گل۔ خاتمِ طلا۔

۵۔ تشبیہی۔ اضافت مشبّہ بہ کی جانب مشبّہ کے۔ جیسے ابرِ رحمت۔ سقائے ابر۔ چراغِ امل۔ خورشیدِ لطف۔ شیشۂ دل۔ سنگِ جفا۔

۶۔ مجازی۔ جس میں مضاف الیہ کے لئے مضاف محض بطور فرضی ثابت کیا گیا ہو۔ جیسے دستِ تدبیر۔ سرپنجۂ غم۔ دیدۂ تمنّا۔ دامنِ وصال۔

۷۔ ظرفی۔ جس میں مظروف مضاف اور ظرف مضاف الیہ ہو۔ جیسے آبِ دریا۔

۸۔ اقترانی۔ جس میں مضاف مضاف الیہ کے ساتھ اقترانِ معنوی رکھتا ہو۔

فائدہ۔ واوی اسم میں کبھی واؤ کو کسرہ دیتے ہیں اور یٰ نہیں بڑھاتے۔ جیسے ع در پہلو من نشستہ آں غوغ۔ مگر کلمات دوحرفی مثل۔ خو۔ زو وغیرہ میں ایسا نہیں کرتے۔

جیسے نامۂ عنایت۔

۹۔ **اضافت بادنیٰ ملابست**۔ جس میں مضاف الیہ کو مضاف کے ساتھ تھوڑی سی مناسبت و تعلق ہو۔ جیسے شبِ توبہ۔ روزِ گناہ۔ شبِ گور۔

توضیح۔ ۱۔ اضافت تخصیصی و توضیحی میں یہ فرق ہے کہ تخصیصی میں مضاف اور مضاف الیہ دو جنس کے ایسے ہوتے ہیں کہ مضاف کا بولنا مضاف الیہ پر یا بالعکس صحیح نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ نہیں کہ سکتے کہ گل بوستاں است۔ اور توضیحی میں دونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں کہ اطلاق ایک کا دوسرے پر صحیح ہے۔ مثلاً کہہ سکتے ہیں کہ شہر بصرہ است یا بصرہ شہر است۔

۲۔ اضافت توضیحی کو اضافت عام بسوے خاص بھی کہتے ہیں۔

۳۔ بحث حروف میں مذکور ہوا کہ تشبیہ میں چار چیزوں کا ہونا ضرور ہے۔ مشبّہ۔ مشبّہ بہٖ۔ وجہ شبہ۔ حرفِ تشبیہ۔ پس اضافت تشبیہی میں مشبّہ بہ مضاف الیہ اور مشبّہ مضاف ہوتا ہے اور بقیہ دو چیزیں نہیں ہوتیں۔ مثلاً سقائے ابر۔ یعنی ابر کہ ہمچو سقا است در سیرابی۔

۴۔ اضافت مجازی کو **استعارہ** بھی کہتے ہیں۔ استعارے میں مضاف الیہ مشبّہ ہوتا ہے اور ایک شئے مفروض مشبّہ بہ جو یہاں پر مذکور نہیں بلکہ اس سے مفروض کے لوازمات سے کوئی چیز لے کر مضاف بناتے ہیں، جیسے دستِ تدبیر میں تدبیر کو انسان سے تشبیہ دے کر دست کو اس کی طرف مضاف کیا۔ کیونکہ انسان کے لئے ہاتھ پاؤں کا ہونا لازم ہے۔ اضافت استعارہ و تشبیہی میں جب اضافت کو اُلٹا کر حرفِ تشبیہ بیچ میں ڈال دیں تو معنی درست رہتے ہیں۔ جیسے سقائے ابر میں ابر ہمچو سقا کہہ سکتے ہیں۔ برخلاف دامنِ وصال کے کہ اس کو وصال ہمچو دامن نہیں کہہ سکتے۔

۵ جس اضافت میں مضاف مالک اور مضاف الیہ مملوک ہو یا وہ اضافت کہ اس میں مضاف ظرف اور مضاف الیہ مظروف ہو وہ تخصیصی ہے۔ جیسے صاحبِ خانہ۔ سلطانِ روم۔ شیشۂ گلاب۔ صندوقِ کتاب۔ مشکِ نبیذ وغیرہ۔

مرکب توصیفی۔ وہ ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے صفت وہ ہے جس سے کوئی بھلائی یا برائی معلوم ہو موصوف وہ جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے۔ موصوف جب صفت سے پہلے آتا ہے تو اس کے آخر کسرہ دیتے ہیں جیسے مردِ نیک اور جس وقت صفت کو پہلے لاتے ہیں تو کسرہ نہیں دیتے۔ جیسے نیک مرد۔ پہلی قسم کو **صفت مستوی** اور دوسری کو **صفتِ مقلوب** کہتے ہیں۔

قاعدہ۔ جس اسم موصوف کے آخر الف یا و ہوتا ہے اس میں وقتِ صفت ایک ی بڑھاتے ہیں۔ مثلاً خوئے خویش۔ دانائے کامل۔ صہبائے ناب اور جس میں ہ ہو تو اس کو ہمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے بندۂ نیک۔

مرکب امتزاجی۔ وہ ہے جس میں دو کلمے مل کر ایک ہو جائیں۔ جدا جدا معلوم نہ ہوں یا اس کا دوسرا جزو معنی مستقل نہ رکھتا ہو اس کی دو قسمیں ہیں **اوّل** وہ مرکبات جو فعل و حرف سے مرکب ہوتے ہیں جیسے دانا و گویا بخشش و دانش **دوم** وہ جو اسم

فوائد۔ ۱۔ صفت موصوف کے درمیان فصل جائز ہے۔ نظامی ؎ چو بر ہستی تو من سست رائے٭ بیسے حجت انگیختم دلکشائے٭ اے حجت دلکشائے انگیختم۔ سعدی ؎ نعیم خطۂ شیراز و لعبتان بہشتی٭ زہر دریچہ نگہ کن کہ حور بینی عین را٭ اے حور عین را بینی۔

۲۔ کبھی صفت مستوی میں بھی کسرہ حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے مرغابی۔

۳۔ موصوف واحد ہو یا جمع مگر صفت واحد ہی آتی ہے۔ مثلاً مردان دلاور۔

۴۔ ایک موصوف کی کئی صفتیں آسکتی ہیں۔ مثلاً ؎ یلان کماں دار نخچیر زن٭ غلامانِ سرکش کش و تیز زن علم صنائع میں اس کو صنعت تنسیق الصفات کہتے ہیں۔

۵۔ فارسی میں صفات میں تذکیر و تانیث نہیں ہے۔ مگر اہل عرب کی تقلید سے والدہ ماجدہ وغیرہ کہتے ہیں۔ عرب والوں نے جمع کو مؤنث مانا ہے۔ ان کی تقلید سے اہل فارس بھی جمع کی صفت مؤنث لاتے ہیں۔ مثلاً اخلاق حمیدہ۔ افعال ذمیمہ۔

Scanned by CamScanner

وحرف سے مُرکّب ہوتے ہیں وہ کئی معنوں کا فائدہ دیتے ہیں۔ فاعلیت۔ جیسے زرگر۔ ستمگر۔ نسبت۔ جیسے آہنیں۔ لیاقت۔ جیسے شاہوار۔ تشبیہ۔ جیسے آسمان۔ محافظت۔ جیسے ساربان۔ خداوندی۔ جیسے دانشمند۔ مشارکت۔ جیسے ہمرکاب۔ تصغیر جیسے باغچہ۔ اتصاف جیسے غمگین۔ ظرفیت۔ جیسے نمکسار۔ سنگسار۔ مُرکّب عددی۔ یازدہ سے نوزدہ تک۔

مرکب غیر امتزاجی۔ وہ ہے جس کے کلمات جُدا جُدا معلوم ہوں اور با معنی ہوں اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اوّل۔ وہ مُرکّب جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے ترکیب پائے جیسے ایں جہاں۔ دوم۔ مُرکّب تمیزی جس میں ایک اسم جامد۔ دوسرے اسم جامد کے ابہام و شک کو دور کرے جیسے یک من شہد۔ دہ درم سیم۔ سوم۔ وہ جو دو اسم جامد سے مل کر فائدہ کثرت کا دے۔ جیسے کوہ کوہ۔ دریا دریا۔ چہارم وہ مُرکّب جو الفاظ سفید معنی رنگ کے ساتھ مُرکّب ہو۔ جیسے گلگوں۔ میگوں۔ پنجم۔ مُرکّب اتصالی جس میں دو اسم بواسطۂ حرف اتصال کے مُرکّب ہوں۔ جیسے لبالب۔ شباشب۔ ششم مُرکّب تعدادی جس میں دو اسم بواسطۂ حرف عطف کے مُرکّب ہوں۔ جیسے بست و یک تا نود و نہ۔ ہفتم۔ وہ اسم جو جامد و امر سے مُرکّب ہوتے ہیں۔ جیسے سخنگو۔

فائدہ۔ وہ مُرکّب غیر امتزاجی جو اسم جامد اور امر سے بنتا ہے اُس سے کئی معنوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فاعلیت۔ جیسے جہاں دار۔ جان آفریں۔ مفعولیت۔ جیسے دل پذیر۔ دوائے خانہ ساز۔ پامال۔ قلم کار۔ پیشکش۔ دست گرداں۔ مصدر۔ جیسے قدمبوس۔ دسترس۔ گوشمال۔ اسم آلہ۔ جیسے جاروب۔ گل گیر۔ فتیلہ سوز۔ رومال۔ دست مال وغیرہ

لہ جو اسم ابہام و شک کو دور کرے اُس کو تمیز اور دوسرے کو ممیز کہتے ہیں۔ یہ ابہام و شک۔ وزن۔ تعداد۔ ناپ و پیمانہ و مسافت میں ہوتا ہے۔ مثلاً یک من شہد۔ دو گز دیبائے رومی۔ یک جحبہ دوغ۔ دو فرسنگ راہ۔

اسم ظرف - زرخیز - آب ریز -

فصل دوم دربیان مُرکّب مفید

جملہ کی تعریف اوپر بیان ہوئی جملہ میں ہمیشہ دوجُزء کا ہونا ضرور ہے - ایک مسند دوسرا مسند الیہ یعنی اُس کے اجزا میں سے جو جزو کسی چیز کی طرف نسبت کیا جائے وہ مسند ومحکوم بہ ہے اور جس کی طرف نسبت کریں وہ مسند الیہ ومحکوم علیہ اور اُن کے درمیان کے علاقہ کا نام نسبت حکمیہ اور اسناد ہے - پس اسناد نسبت ایک کلمہ کی ہے طرف دوسرے کے اِس طرح پر کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو -

چونکہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے اور فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ - لہذا کلام ہمیشہ دو اسم سے بنتا ہے یا ایک اسم اور ایک فعل سے خواہ لفظ میں دو ہوں - جیسے زید آمد یا تقدیر میں جیسے بیا - اِس میں ضمیر مخاطب مستتر ہے -

جملہ کی دو قسمیں ہیں - اسمیّہ - فعلیہ - فعلیّہ وہ ہے جو فعل اور فاعل سے مُرکّب ہو - فعل کا بیان صرف میں ہو گیا -

فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل منسوب ہوا ور اُس کے ساتھ قائم ہو - جیسے زید نشست - فعل مسند ہوتا ہے اور فاعل مسند الیہ - فارسی میں فاعل اکثر فعل سے پہلے آتا ہے اور کبھی پیچھے بفاصلہ یا بے فاصلہ - جیسے ع بیا مدز دکان سوے خانہ مرد - فعل اور فاعل میں پانچ چیزوں میں اتحاد شرط ہے یعنی پانچ چیزوں میں فعل اور فاعل ایک سے

توضیح - اسم فاعل اور فاعل میں یہ فرق ہے کہ فاعل فعل کا محکوم علیہ اور مسند الیہ ہوتا ہے اور اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اُس مصدر کے ہر فعل کے فاعل پر جس سے وہ مشتق ہے دلالت کرے -

ہونے چاہئیں۔ وحدت۔ جمعیت۔ غیبت۔ حضور۔ تکلم۔ جیسے او می آید۔ اوشاں می آیند۔ تو می آئی۔ شما می آئید۔ من می آیم۔ ما می آئیم۔ اگر فاعل غیر ذی روح ہو تو فاعل جمع میں فعل واحد لانا بھی جائز ہے۔ جیسے سخنہا درمیان آمد۔

فائدہ۔ اسمائے جمع یعنی وہ الفاظ کہ لفظاً واحد و معنیً جمع ہیں مثل لفظ لشکر و جمعیت و طائفہ و قوم وغیرہ۔ ان کے لئے فعل واحد و جمع دونوں جائز ہے۔ نظامی ع رسیدند لشکر بجائے مصاف۔ ع بیا سو و لشکر ز خون ریختن۔

فعل لازم صرف فاعل پر تمام ہوتا ہے۔ جیسے مثال مذکور اور متعدی مفعول بہ کو بھی چاہتا ہے۔ **مفعول بہ** وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ جیسے زید عمر را زد۔ فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا۔ اس کے مفعول بہ کو فاعل کا قائم مقام کر دیتے ہیں وہی فعل مجہول کا مسند الیہ ہوتا ہے اُس کو مفعول مالم یسم فاعلہ کہتے ہیں۔ اُس کا حکم اور فاعل کا یکساں ہوتا ہے۔ جیسے کتاب دیدہ شد غلامان زید زدہ شدند۔

منادیٰ اور مندوب اور محذّر منہ مفعول بہ میں داخل ہیں۔ یہ سب فعل محذوف

فائدہ ۱۔ کبھی تعظیم کے وقت فاعل واحد میں بھی فعل جمع بولتے ہیں اور کثرت تعظیم کے لئے مخاطب کی جگہ غائب کا صیغہ بولتے ہیں۔ مثلاً حالا شما خواب می کنید۔ حالا جناب خواب می کنند۔ اور اپنے تئیں انکسار سے غائب تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً بندہ می روم۔

فائدہ ۲۔ بعض فعل متعدی ایسے ہیں جو دو فعل کو چاہتے ہیں۔ جیسے احمد محمود را کتاب داد۔ احمد محمود را غبی پنداشت۔ ایسے افعال سے اُن افعال کو جو دل سے تعلق رکھتے ہوں اور ہمیشہ دو مفعول کو چاہیں **افعال قلوب** کہتے ہیں۔

فائدہ ۳۔ مفعول بھی فاعل کی طرح بدلالت قرینہ محذوف ہو سکتا ہے۔ مفعول کی اصلی جگہ فعل فاعل کے درمیان ہے۔ مگر نظم میں بضرورت اس کے خلاف ہو جاتا ہے شعر چنانش در انداخت صنعت جسد × کہ می برد بر کشتریاں حسد ×

کے مفعول بہ ہوتے ہیں ۔ منادےٰ وہ ہے جس پر حرف ندا داخل ہو۔ جیسے اے زید۔ مندوب وہ جس پر حرف ندبہ۔ گریہ وزاری حسرت وافسوس کے لئے داخل ہو۔ جیسے وازیدا۔ محذرمنہ وہ ہے جو مخاطب کو ڈرانے اور ہشیار کرنے کے لئے مکرر لایا جاوے۔ جیسے دزد دزد۔ ان تینوں جگہ سے فعل مع فاعل کے محذوف ہوتا ہے۔

جملہ فعلیہ کے لئے علاوہ فاعل اور مفعول بہ کے چار چیزیں اور بھی ہوتی ہیں کہ وہ فعل لازم و متعدی دونوں کے ساتھ آسکتی ہیں۔ مفعول مطلق۔ مفعول فیہ۔ مفعول لہ۔ حال۔

مفعول مطلق۔ مصدر یا حاصل مصدر یا مصدر کا مرادف ہوتا ہے جو پیچھے یا پہلے فعل کے آتا ہے۔ جیسے زید یک نشست خواہد نشست۔ یہ مفعول تین غرضوں کے واسطے آتا ہے۔ تاکید فعل۔ وضع۔ عدد۔ جیسے ع وے اسال پیوست با ما وصال ما ۱؎ نگہ کرد رنجیدہ در من فقیہ + نگہ کردن عالم اندر سفیہ + زید را یک ضرب خواہم زد۔

مفعول فیہ یعنی فعل ہونے کی جگہ۔ یا وقت۔ اوّل کو ظرف مکان۔ دوم کو ظرف زمان

فائدہ ۱؎ زیدمیں می خواہم محذوف ہے۔ وازیدا کی اصل ہے۔ بتعزیت می کنم زیدزا۔ دزد دزد کی اصل ہے ببیں دزد را و بترس از دزد

توضیح ۱ ظرف مکان دو طرح پر ہوتا ہے محدود۔ جیسے مکان سرائے۔ طویلہ۔ شیشہ۔ صراحی وغیرہ۔ غیر محدود۔ جیسے نشیب وفراز۔ پیش۔ پس۔ راست۔ چپ وغیرہ۔ اسی طور پر ظرف زمان بھی محدود ہوتا ہے۔ مثلاً سال ماہ۔ ہفتہ۔ روز۔ شب وغیرہ وغیرہ محدود۔ جیسے روزگار۔ ہنگام۔ زمان۔ وقت وغیرہ۔

توضیح ۲۔ ظرف مکان اور ظرف زمان پر اکثر در یا از یا بہ لگاتے ہیں۔ مثلاً دراں مدت مرا با طائفہ یار اں اتفاق سفر حجاز افتاد۔ محاورۂ حال میں اکثر ان چیزوں کو حذف کر دیتے ہیں۔ امروز۔ فردا۔ پس فردا۔ دی روز۔ دی شب۔ پریروز۔ پریشب۔ دوش۔ دوشینہ پر کچھ نہیں لاتے۔ مثلاً امروز برائے شام ہرچہ میل دارید بفرمائید۔ ۱؎ وصال مرادف پیوستن ہے۔ مفعول مطلق ہے فعل پیوست کا۔ تاکید کے لئے آیا ہے۔

Scanned by CamScanner

کہتے ہیں۔ جیسے امروز بجارفتہ بودی ہیں۔ اوّل ظرف زمان۔ دوؔم ظرف مکان ہے۔
مفعول لہ جو فعل کا سبب وعلّت ہو۔ وہ دو طرح پر ہے۔ پہلی یہ کہ وہ علت اُس فعل کے وقت موجود ہو۔ جیسے دیانتہً راست گفتم۔ یعنی بسبب دیانت کے دوسرے وہ کہ اس فعل کے وقت موجود نہ ہو۔ بلکہ اُس فعل سے وہ مقصود ہو۔ جیسے زیدرا تادیبًا زدم۔ یعنی واسطے حصول ادب کے۔
حال۔ وہ اسم یا جملہ ہے کہ ہیئت فاعل یا مفعول بہ یا دونوں کی بیان کرے جس فاعل یا مفعول بہ کی ہیئت بیان کی جاتی ہے اُس کو **ذوالحال** کہتے ہیں حال مع ذوالحال کے فاعل یا مفعول بہ ہوگا۔ جیسے ع تنگ کرد رنجیدہ درمن فقیہ + آفتاب را تاباں دیدم۔
فائدہ۔ اِن چار چیزوں کو **فضلہ** کہتے ہیں کیونکہ اُن کی احتیاج جملے میں ویسی نہیں ہوتی جیسی مسند ومسند الیہ کی ہوتی ہے۔
جملہ فعلیہ کا فعل پانچ جگہ محذوف ہوتا ہے اوّل جواب استفہام میں۔ جیسے کوئی کہے کہ آمد۔ اُس کے جواب میں کہا جائے زید۔ تو یہاں آمد محذوف ہے اور کبھی فعل وفاعل دونوں جواب استفہام میں محذوف ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے۔ زید کرا زد اُس کے جواب میں کہا جائے خالدرا۔ یہاں زد زید۔ فعل مع فاعل بقرینہ سوال محذوف ہے۔ دوؔم قسم میں جیسے بمردی۔ اِس کے پہلے قسم می خورم محذوف ہے

توضیح حال ہمیشہ واحد رہتا ہے۔ ذوالحال واحد ہو یا جمع مثلاً احمد خنداں می رفت۔ یاراں خنداں گذاشتند۔ جب جملہ حال پڑتا ہے تو اُس میں واو حالیہ اور ایک ضمیر جو ذوالحال کی طرف پھرتی ہے ضرور ہونی چاہیئے۔ **شعر** کریم روز سیہ بندۂ دل بسوخت + کہ می گفت وفریادش می فروخت۔

سوم بائے ابتدائیہ کے پہلے ابتدائی کلمہ محذوف ہوتا ہے۔ جیسے ع بنام آں کہ نامش حرز جانہاست۔ چہارم منادائے ومندوب کے پہلے۔ جیسے اے زید یعنی می خوانم محذوف ہے اور حرف ندا اُس کا قائم مقام ہے۔ پنجم محذر منہ کے پہلے۔ جیسے دزد دزد۔

جملہ اسمیہ وہ ہے جو دو اسموں سے بنے اس میں سے مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں اور نسبت حکمیہ اور اسناد پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اُسے رابطہ کہتے ہیں۔ رابطہ فارسی میں چھ ہیں۔ است۔ اند۔ ی۔ ید۔ م۔ یم اور اکثر خبر کے بعد آتے ہیں اور وحدت وجمعیت میں مطابق مبتدا کے ہوتے ہیں۔ جیسے زید قائم است۔ مردمان قائم اند۔ مگر غیر ذی روح کے لئے حرف رابطہ ہمیشہ واحد ہی آتا ہے۔ مثلاً مال ودولت دُنیا چند روزہ است اور کبھی حرف رابطہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ مبتدا کو کبھی جواب استفہام میں حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے زید پسر کیست اُس کے جواب میں کہا جائے۔ پسر خالد است۔ یہاں سے زید مبتدا محذوف ہے خبر مبتدا کی کبھی مفرد ہوتی ہے جیسا اوپر کی مثال سے ظاہر ہے اور کبھی جملہ فعلیہ یا اسمیہ اوّل کی مثال ع یکے روستائی سقط شد خرش۔ یکے روستائی۔ مبتدا سقط شد فعل مُرکّب۔ خرش مُرکّب اضافی اُس کا فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا مبتدا کی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ دوسرے کی مثال۔

توضیح ا۔ اکثر اسم ذات ومعرفہ مبتدا ہوتا ہے۔ اسم صفت ونکرہ خبر۔ اگر جملے میں دونوں اسم نکرہ یا اسم صفت ہوں تو جس میں خصوصیت پائی جائے وہ مبتدا ہوگا۔ جیسے ہوا گرم است۔ احمد ذہین است قمری خوش آواز است۔ اسپ چالاک است۔

۲۔ مبتدا اکثر مقدم ہوتا ہے۔ کبھی مؤخر۔ کبھی ایک مبتدا کی کئی خبریں آتی ہیں۔ مثلاً زید دانا است وعاقل۔

ع نہ ہر صورتے جان معنی درست ۔ ہر صورتے مبتدا اول ۔ جان معنی مبتدا ثانی ۔ درجار و مجرور ۔ جار مجرور سے مل کر متعلق ثابت مقدر کا ہو کر خبر ہوا مبتدا ثانی کی ۔ است رابطہ ۔ مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوا مبتدا اول کی ۔ مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا ۔

فائدہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ میں کبھی متعلق بھی آیا کرتا ہے یعنی حروف جارّہ مع اُن اسموں کے جن پر وہ داخل ہوں ہمیشہ فعل یا شبہ فعل (مصدر یا اسم مشتق) کے متعلق ہوا کرتے ہیں اور فاعل اور مفعول و مبتدا و خبر ہونے کی صلاحیت بغیر متعلق ہونے کے نہیں رکھتے جیسے پسر بفراست دریافت ۔ اگر فعل یا شبہ فعل ظاہر میں موجود نہ ہوں تو اُس کو محذوف مانتے ہیں جیسے زید در خانہ است یعنی در خانہ موجود است ۔

جملہ فعلیہ و اسمیہ کی دو قسمیں ہیں خبریہ و انشائیہ ۔ خبریہ وہ ہے کہ جس کے قائل کو جھوٹا و سچا کہہ سکیں ۔ انشائیہ وہ کہ اُس کے کہنے والے کو صادق و کاذب نہ کہہ سکیں

جملہ انشائیہ کی نو قسمیں ہیں ۔ امر جیسے بگو ۔ نہی جیسے مکن ۔ تمنی جیسے کاش عالم شدمے ۔ ندا ۔ جیسے اے زید ۔ قسم ۔ جیسے بخدا زید را نجوا ہم زد ۔ تعجب ۔ جیسے زید چہ گویا است ۔ استفہام ۔ جیسے چہ می کنی ۔ عرض ۔ یعنی کسی کام کا شوق دلانا جیسے مطالعہ چرا پیشتر نمی کنی کہ سبق آساں نماید ۔ عقود ۔ یعنی معاملات میں جو معنی مستعمل

فائدہ ۔ استفہام تین قسم پر ہے ۔ استخباری جس میں کسی چیز کا پوچھنا منظور ہو جیسے ع چہ خصلت زمین ناپسند آمدت ۔ تقریری جس میں کسی چیز کا ثابت کرنا منظور ہو جیسے ع نہ شمشیر دوراں ہنوز آختہ است ۔ انکاری ۔ جس میں مستفسر کی نفی اور اُس سے انکار منظور ہو ۔ جیسے ع چہ دولت نما شد بھو رچہ سود ۔

ہوتے ہیں۔ جیسے بائع کہے بخشش فروختم اور مشتری کہے بہ پنج خریدم۔
فائدہ چند جملے بغیر دوسرے کے تمام نہیں ہوتے۔ اوّل ندا۔ بدون ایک جملے کے (جس کو مقصود بالندا یا جواب ندا کہتے ہیں) تمام نہیں ہوتا۔ جیسے ع کرم کن بجائے من اے محترم ۔ دوم۔ قسم بدون جواب کے پورا نہیں ہوتا جیسے ع۔ بمردی کہ بیغش آیدت روشنی ۔ سوم۔ شرط بدون جواب کے (جس کو جزا کہتے ہیں) پورا نہیں ہوتا۔ جیسے۔ ع۔ اگر عاشقی سر مشو از مرض ۔ (کبھی جزا کو حذف بھی کر دیتے ہیں)۔
جیسے ۵ تو گر شکر کردی کہ با دیدہٗ (اے بس بہتر است) و گرنہ تو ہم چشم پوشیدہٗ ۔
جملہ۔ باعتبار صفات کے دس نام سے موصوف ہے۔ اوّل مستانفہ جو ابتدائے کلام میں واقع ہو۔ جیسے۔ عدل شحنہ ایست ملک آرا۔ دوم معترضہ جو درمیان کلام میں واقع ہو اور ما قبل اور ما بعد سے کچھ علاقہ نہ رکھتا ہو۔ جیسے ۔ بربالین تربت یحییٰ پیغمبر (علیہ السلام) معتکف بودم۔ سوم۔ شرطیہ جو دو جملوں سے بنتا ہے۔ اوّل کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے ع اگر دست یابد ببرد سرت ۔ چہارم۔ قسمیہ۔ جو قسم اور جواب قسم سے مرکب ہوتا ہے۔ جیسے۔ ع۔ بمردی کہ بیشں آیدت روشنی ۔ پنجم۔ ندائیہ جو ندا اور جواب ندا سے مرکب ہوتا ہے۔ جیسے ع کریا ببخشائے بر حال ما ۔ ششم۔ دعائیہ جو دعا ہو۔ جیسے۔ ع کہ رحمت براں تربت پاک باد ۔ ہفتم۔ معطوفہ وہ جملہ ہے جس میں حرف عطف پایا جائے حرف عطف سے پہلا جملہ معطوف علیہ ہے اور دوسرا معطوف۔ مثلاً ع آں قدح بشکست وآں ساقی نماند ۔ ہشتم۔ معللہ جو دو جملوں سے بنتا ہے پہلے کو معلول۔ دوسرے کو علت اور مجموع کو معللہ کہتے ہیں۔ جملہ علت کے پہلے حروف علت سے

کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیئے۔ مثلاً ؎ زنام آوراں گوئے دولت ربود کہ در گنج بخشی نظیرش نبود ۔ نہم نتیجہ جو کلام سابق سے پیدا ہو۔ جیسے ہر کاتب انسان است و ہر انسان جاندار است (پس ہر کاتب جاندار است) نتیجہ یہ ہے جو کلام سابق سے پیدا ہوا ہے۔ دہم مبیّنہ جو کلام سابق کا بیان اور تفسیر واقع ہو اس جملے کے پہلے اکثر کاف بیانیہ آتا ہے۔ جیسے ؎ شنیدم کہ دارائے فرخ تبار ز لشکر جدا ماند روزے شکار ۔

توابع کا بیان

جملۂ اسمیہ اور فعلیہ میں چند چیزیں بطور توابع کے آتی ہیں وہ خود نہ مبتدا ہوتی ہیں نہ خبر۔ نہ فاعل نہ مفعول بلکہ انھیں چیزوں کے تابع ہوتی ہیں وہ تین ہیں۔ تاکید۔ معطوف۔ بدل۔

تاکید وہ اسم ہے کہ سابق کی نسبت کو ثابت اور مستحکم کرتا ہے یا نسبت کے شمول پر دلالت کرتا ہے۔ اسم ثابت کو موکّد کہتے ہیں۔ جیسے زید خود آمد۔ حجاج ہمہ آمدند۔ تاکید کبھی فاعل کی کی جاتی ہے۔ جیسے ع عجب دارم از کار ایں لقمہ من ۔ کبھی مفعول کی۔ جیسے۔ ع تامش بکشتم بسنگ آں خبیث ۔ کبھی مبتدا کی۔ جیسے

فائدہ ۔ تاکید دو قسم پر ہے۔ لفظی۔ معنوی۔ لفظی بہ تکرار لفظ حاصل ہوتی ہے ع بیا بیا کہ بہاں مونس وفا دارم ۔ معنوی الفاظ مخصوصہ سے ہوتی ہے۔ مثل۔ خود۔ تمام۔ یکسر۔ بنفسہ۔ بعینہ۔ ہمہ۔ ہمگناں وغیرہ۔ مصرع پیادہ دوید ند یکسر سپاہ ۔ اور لفظ زینہار۔ ہرگز۔ البتہ۔ ہر آئینہ وغیرہ بھی تاکید کا فائدہ دیتے ہیں۔ ع زنہار بد مکن کہ نکردہ است عاقلے ۔ ؎ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید ۔

Scanned by CamScanner

زید خود در خانہ است۔

معطوف۔ جو اسم کہ بعد حروفِ عطف کے واقع ہو اُس کو **معطوف** اور پہلے اسم کو **معطوف علیہ** کہتے ہیں۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کبھی فاعل ہوتا ہے۔ جیسے ع خرابی و بدنامی آید ز جور۔ کبھی مفعول جیسے ع نہد لعل و فیروزہ در صلبِ سنگ۔ کبھی مبتدا جیسے ع توانا و درویش پرور توئی کبھی خبر۔ جیسے ایں است قلم و دوات تو۔

بدل۔ جب دو اسموں کی طرف بلا واسطہ حرفِ عطف و بغیر علامت اضافت وصفت کے اس طرح کی نسبت ہو کہ مقصود اُس نسبت سے دوسرا ہو نہ اوّل۔ تو اوّل کو مبدل منہ اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں۔ جیسے زید برادرِ خالد رسید۔ بدل کی چار قسمیں ہیں۔ اوّل **بدل کُل** جس میں بدل اور مبدل منہ سے ایک ہی ذات سمجھی جائے۔ جیسے مثالِ سابق۔ دوّم **بدل بعض** کہ بدل جزو ہو مبدل منہ کا۔ جیسے زید پایش بشکست۔ سوّم۔ **بدل اشتمال** کہ بدل مبدل منہ کا نہ کل ہو نہ جزو۔ بلکہ اُس کے متعلقات سے ہو۔ جیسے ع بدست ایں پسر طبع وخویش ولیک۔ چہارم۔ **بدل غلط** کہ غلط کے بعد بولا جائے۔ جیسے بہ مشہد می روم بشیراز۔

فائدہ ۱۔ صفت اور بدل میں یہ فرق ہے کہ بدل مقصود بالذات ہوتا ہے نہ صفت۔

فائدہ ۲۔ بدل کُل نظم و نثر دونوں میں آتا ہے۔ بدل بعض و بدل اشتمال نثر میں نہیں آتے مگر نظم میں آتے ہیں۔ بدل غلط نہ نظم میں مستعمل ہے نہ نثر میں۔ مگر زبانی بول چال میں وہ پایا جاتا ہے۔

قاعدہ۔ بدل مبدل منہ سے مل کر کبھی فاعل ہوتا ہے۔ جیسے مثال اوّل و دوم۔ اور کبھی مفعول۔ جیسے ع کہ نگذاشت کس را نہ دختر نہ زن۔ اور کبھی مبتدا۔ جیسے مثال سوم اور یہ مثال شعر پرستار امرش ہمہ چیز و کس۔ بنی آدم و مرغ و مور و مگس۔

قواعد ترکیب

قاعدہ۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر حکم کلمہ کا رکھتا ہے۔ لہٰذا فاعل و مفعول و مبتدا و خبر و مجرور و مضاف الیہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔

فاعل ہونے کی مثال ع۔ کرم ورزد آں سر کہ مغزے در وست۔

ترکیب۔ ورزد۔ فعل۔ آں سر کہ اسم موصول با کاف صلہ مغزے مبتدا۔ در۔ جار۔ او۔ مجرور۔ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت مقدر کا۔ ثابت مقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوا مبتدا کی۔ است۔ حرف ربط۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل ہوا فعل ورزد کا۔ کرم اس کا مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔

مفعول ہونے کی مثال۔ کامے کہ خواہی بیاب۔

ترکیب۔ بیاب۔ فعل۔ اس میں ضمیر مستتر مخاطب کی فاعل۔ کامے کہ۔ اسم موصول۔ باکاف صلہ۔ خواہی۔ فعل با فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول ہوا فعل بیاب کا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔

Scanned by CamScanner

مبتدا ہونے کی مثال ع۔ نہ تلخ است صبرے کہ بریاد اوست ؂۔
ترکیب۔ صبرے کہ۔ اسم موصول با کاف صلہ۔ آں۔ مبتدا محذوف۔ بر۔ جار۔ یاد او مرکب اضافی مجرور۔ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت مقدر کا۔ ثابت مقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوا۔ آں۔ مبتدا محذوف کی۔ است۔ رابطہ۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملۂ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا ہوا تلخ۔ اس کی خبر۔ نیست۔ رابطہ۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملۂ اسمیہ ہوا۔
خبر ہونے کی مثال ۔ عدل آں است کہ داد مظلوماں دہند۔
ترکیب۔ عدل مبتدا۔ آں کہ۔ اسم موصول با کاف صلہ۔ دہند۔ فعل ضمیر غائب کی اس کا فاعل۔ داد مظلوماں۔ مرکب اضافی مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملۂ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر ہوا مبتدا کی۔ است۔ رابطہ۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملۂ اسمیہ ہوا۔
مجرور ہونے کی مثال ع۔ فروتر نشست از مقامے کہ بود ؂
ترکیب۔ نشست۔ فعل ضمیر غائب کی جو راجع ہے طرف فقیہ کہن جامہ کے اس کا فاعل۔ فروتر۔ مفعول فیہ۔ از۔ جار۔ مقامے کہ۔ اسم موصول با کاف صلہ۔ بود۔ فعل تامّہ ضمیر غائب کی جو راجع ہے طرف فقیہ کہن جامہ کے اس کا فاعل فعل بود اپنے فاعل سے مل کر جملۂ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا۔ موصول صلہ سے مل کر مجرور ہوا جار کا۔ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل نشست کا۔ نشست اپنے فاعل و مفعول فیہ و متعلق سے مل کر جملۂ فعلیہ ہوا۔
قاعدہ۔ مرکبات ناقصہ کے جملہ اقسام یعنی مرکب اضافی۔ توصیفی۔ امتزاجی۔

Scanned by CamScanner

وغیر امتزاجی حکم کلمہ کا رکھتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ جملہ کے جزو ہوا کرتے ہیں جملہ نہیں ہوتے۔جس وقت کسی جملہ کی ترکیب کرنا منظور ہوا ور اجزا جملہ کے بہت ہوں تو غور کرنا چاہیے کہ کون جزو مفرد ہے اور کون مُرکّب۔ اگر مفرد ہے تو کس قسم کا۔ ہر ایک قسم کو مطابق قواعد صرف خیال کرنا چاہیئے۔ اور اگر مرکّب ہے تو کس قسم کا۔ اضافی ہے یا توصیفی۔ امتزاجی ہے یا غیر امتزاجی۔ اور غیر امتزاجی کے اقسام سے وہ مرکبات جو اسم اشارہ اور مشارٌالیہ سے ترکیب پاتے ہیں۔ اور نیز مُرکّبات تمیزی و مستثنیٰ منہ و مستثنیٰ وغیرہ کو غور کرنا چاہیئے۔من بعد دیکھنا چاہیئے کہ تعلق ہر ایک کلمات کا دوسرے سے کیونکر ہے۔ تاکہ فاعل ومفعول و مبتدا وخبر بخوبی معلوم ہوجائیں۔ اور ترکیب کہنے میں سہولت و آسانی ہو تاوقتیکہ ہر ایک جزو علیحدہ علیحدہ بقاعدۂ صرف ونحو معلوم نہ ہوجائیں گے اور تعلق کلمات کا دریافت نہ ہوجائے گا ترکیب کہنا بہت دشوار ہوگا۔چند جملے بطریق تمثیل لکھے جاتے ہیں۔ جن میں مُرکّباتِ ناقصہ فاعل ہیں یا مفعول مبتدا ہیں یا خبر۔

مرکباتِ اضافی کے فاعل ومفعول و مبتدا وخبر ہونے کی مثال ع کوسِ رحلت بکوفت دست اجل + ترکیب۔ بکوفت۔ فعل۔ دستِ اجل۔ مُرکّب اضافی اُس کا فاعل۔ کوسِ رحلت۔ مُرکّب اضافی اُس کا مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل ومفعول بہ سے مِل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ع پندِ سعدی بگوش جاں بشنو + ترکیب۔ بشنو۔ فعل اس میں ضمیر مستتر مخاطب کی۔ وہ فاعل۔ پندِ سعدی مُرکّب اضافی اُس کا مفعول بہ۔ ب۔ جار۔ گوشِ جاں۔ مُرکّب اضافی مجرور۔

جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کا۔ فعل اپنے فاعل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فقرہ عاکفاں کعبۂ جلالش بہ تقصیر عبادت معترف اند۔ ترکیب۔ عاکفاں۔ مضاف اوّل۔ کعبہ۔ مضاف دوم۔ جلالش۔ مرکب اضافی مضاف الیہ۔ مضاف دوم اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا مضاف اوّل کا۔ مضاف اوّل اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا۔ معترف اس کی خبر۔ بہ۔ جار۔ تقصیر عبادت۔ مرکب اضافی مجرور۔ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا خبر کا۔ اند۔ رابطہ۔ مبتدا اپنی خبر و متعلق سے مل کر جملۂ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ع۔ راستی موجب رضائے خداست و ترکیب۔ راستی۔ مبتدا۔ موجب۔ مضاف۔ رضائے خدا۔ مرکب اضافی مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوا مبتدا کی۔ است۔ رابطہ۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

مرکب توصیفی کے فاعل و مفعول و مبتدا ہونے کی مثال۔ مصرع۔ اسپ لاغر میاں بکار آید و ترکیب۔ بکار آید۔ فعل مرکب۔ اسپ۔ موصوف۔ لاغر میاں۔ مرکب توصیفی اس کی صفت۔ موصوف صفت سے مل کر فاعل ہوا فعل کا۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملۂ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فقرہ۔ عابدے جاہل را بادشاہے طلب کرد۔ ترکیب۔ طلب کرد۔ فعل مرکب۔ بادشاہے۔ اس کا فاعل عابدے جاہل۔ مرکب توصیفی اس کا مفعول بہ۔ را۔ علامت مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملۂ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فقرہ۔ کوتاہ خردمند بہ کہ نادان بلند۔ ترکیب۔ کوتاہ خردمند۔ مرکب توصیفی مبتدا۔ بہ کہ۔ بمعنی از۔ جار۔ نادان بلند۔ مرکب توصیفی مجرور۔ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا خبر کا۔

Scanned by CamScanner

مبتدا اپنی خبر و متعلق سے مِل کر جملۂ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ع بگفت احوالِ ما برقِ جہان است ٭ **ترکیب**۔ بگفت۔ فعل اس میں ضمیر مستتر غائب کی۔ وہ فاعل۔ احوالِ ما مُرکّب اضافی مبتدا۔ برقِ جہان۔ مُرکّب توصیفی اس کی خبر۔ است۔ رابطہ۔ مبتدا اپنی خبر سے مِل کر جملۂ اسمیہ ہو کر مقولہ ہوا فعل گفت کا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مِل کر جملۂ فعلیہ خبریہ ہوا۔

مرکبات غیر امتزاجی۔ سے مُرکّب تمیزی کے فاعل و مفعول و مبتدا و خبر ہونے کی مثال۔ **فقرہ**۔ نزدم دہ گز پارچہ فراہم آمد۔ **ترکیب**۔ فراہم آمد فعل مُرکّب۔ دہ گز۔ ممیز۔ پارچہ۔ تمیز۔ تمیز ممیز سے مِل کر فاعل ہوا فعل کا۔ نزدم مُرکّب اضافی مفعول فیہ۔ فعل اپنے فاعل و مفعول فیہ سے مِل کر جملۂ فعلیہ خبریہ ہوا۔ **فقرہ**۔ سی صد و پنجاہ و نہ بندش بیاموخت۔ **ترکیب**۔ بیاموخت۔ فعل اس میں ضمیر مستتر غائب کی وہ فاعل۔ سی صد و پنجاہ و نہ۔ اسم عدد ممیز۔ بندش۔ مُرکّب اضافی تمیز۔ ممیز تمیز سے مِل کر مفعول بہ ہوا فعل کا۔ فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مِل کر جملۂ فعلیہ خبریہ ہوا۔ **فقرہ**۔ دو صد مہرہ در جسم انسان است۔ **ترکیب** دو صد۔ ممیز۔ مہرہ۔ تمیز۔ ممیز تمیز سے مل کر مبتدا۔ در۔ جار۔ جسم انسان۔ مُرکّب اضافی مجرور۔ جار مجرور سے مِل کر متعلق موجود محذوف۔ لفظ موجود محذوف اپنے متعلق سے مِل کر خبر ہوا مبتدا کی۔ است رابطہ۔ مبتدا اپنی خبر سے مِل کر جملۂ اسمیہ خبریہ ہوا۔ **فقرہ**۔ این دو من شکر است۔ **ترکیب**۔ این۔ مبتدا۔ دو من۔ ممیز۔ شکر۔ تمیز۔ ممیز تمیز سے مِل کر خبر۔ است۔ رابطہ۔ مبتدا اپنی خبر سے مِل کر جملۂ اسمیہ خبریہ ہوا۔

مرکبات غیر استغراقی سے مستثنیٰ منہ و مستثنیٰ کے فاعل و مفعول و مبتدا ہونے کی مثال ع نماند بجز نام نیکو و زشت ⁂ ترکیب. نماند. فعل. چیزے. مستثنیٰ منہ محذوف۔ بجز. حرف استثنا. نام. مضاف. نیکو. معطوف علیہ. واو. حرف عطف. زشت. معطوف. معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا نام مضاف کا۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مستثنیٰ ہوا۔ مستثنیٰ منہ مستثنیٰ سے مل کر فاعل ہوا فعل نماند کا۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ع ندارد بجز آستانت سرم ⁂ ترکیب۔ ندارد۔ فعل. سرم. مرکب اضافی اس کا فاعل. آستانہ. مستثنیٰ منہ محذوف. بجز حرف استثنا۔ آستانت. مرکب اضافی مستثنیٰ. مستثنیٰ منہ مستثنیٰ سے مل کر مفعول بہ ہوا. فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ شعر۔ در اوراق سعدی جزیں پند نیست ⁂ کہ چوں پائے دیوار کندی مایست ⁂ ترکیب. پندے. مستثنیٰ منہ محذوف۔ جز. حرف استثنا۔ ایں. اسم اشارہ. پند. مشار الیہ. اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبین ہوا۔ کہ. بیانیہ. چوں حرف شرط. کندی. فعل با فاعل۔ پائے دیوار۔ اس کا مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شرط ہوا۔ مایست اس میں ضمیر مستتر مخاطب کی وہ فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوا۔ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر بیان ہوا مبین کا۔ مبین بیان سے مل کر مستثنیٰ ہوا۔ مستثنیٰ منہ مستثنیٰ سے مل کر مبتدا ہوا۔ در. جار۔ اوراق سعدی مرکب اضافی مجرور۔ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت محذوف کا۔ ثابت محذوف اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوا مبتدا کی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔

تمام شد

Misbahi Library

Scanned by CamScanner